



5275CH05

تنظیم کاری

(ORGANISING)

5
باب

و پرو، ترقی کی راہ پر (Way to go, Wipro)

سیکھنے کے مقاصد
اس باب کے مطالعہ کے
بعد آپ:

- تنظیم کاری کے نظریے کو واضح کر سکیں گے؛
- تنظیم کاری کے طریق عمل کی وضاحت کر سکیں گے؛
- تنظیم کاری کی اہمیت بیان کر سکیں گے؛
- عملی تنظیم (Functional Organisation) کے مفہوم، فائدے اور نقصانات کو واضح کر سکیں گے؛
- تقسیمی تنظیم (Divisional Organisation) کے مفہوم، فائدے اور نقصانات کو واضح کر سکیں گے؛
- رسمی اور غیر رسمی تنظیم کے مفہوم، فائدے اور نقصانات کو واضح کر سکیں گے؛
- رسمی اور غیر رسمی تنظیم کے درمیان فرق واضح کر سکیں گے؛
- اختیارات کی تفویض (Delegation) اور لامرکزیت (Decentralisation) کے تصور کی وضاحت کر سکیں گے؛
- اختیارات کی تفویض اور لامرکزیت کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے؛ اور
- اختیارات کی تفویض اور لامرکزیت میں فرق واضح کر سکیں گے۔

منزل ابھی نہیں آئی، لیکن منزل یقیناً قابل رسائی ہے۔ وپرو ٹیکنولوجیز (Wipro Technologies) نے جس کو ہندوستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مسائل حل کرنے میں بہت اہم مقام حاصل ہے IBM اور Accenture کی مانند اپنی کوششوں میں یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی خدمات کی سب سے بڑی اور کامیاب ترین کمپنیوں میں خود کو شامل کر لے۔

فی الحال وپرو نے آنے والے برسوں میں 30 فیصد سالانہ شرح ترقی (پیداوار) کے متوقع نشانہ کو پورا کرنے کے لیے 45000 لوگوں کو ملازم رکھا ہے۔ وپرو کے چیئرمین پریم جی نے کہا: ”میں نہیں سمجھتا کہ ایک ناقابل فتح چیلنج کے طور پر 1,50,000 یا 2,00,000 لوگوں سے اس میں کچھ اضافہ ہو۔ انھیں یقین ہے کہ اگر Accenture جیسی کمپنیاں 2 برسوں میں 20,000 لوگوں کے ذریعے ترقی کر سکتی ہیں تو وپرو کی پیداواری پیش رفت کیوں ممکن نہیں ہے۔ وپرو کو دنیا میں جو اونچا مقام حاصل ہوا ہے اس میں وپرو کی تشکیل نو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس تشکیل نو کا محرک کمپنی کو صارف رخی بنانے کا مقصد ہی ہے۔

گذشتہ چند مہینوں کے دوران وپرو نے مصنوعات کے معاملے میں خود کو مختلف معاون یا ذیلی کمپنیوں جیسے ٹیلی کمیونٹی کیشن، انجینئرنگ اور مالیات خدمات وغیرہ میں بانٹ دیا ہر معاون کمپنی سے تقریباً \$300 سالانہ یافتہ ہوتی ہے اور یہ ان کی حسابی کتابوں، کمپنی کے عملے (personnel) اور مینجمنٹ امور کے بذات خود کافی ہے۔

و پرو نے مرکزی مینجمنٹ نظام کو لامرکز مینجمنٹ نظام میں تبدیل کر دیا۔ ترقی کی تمام تر ذمہ داریاں ہر حصے (entity) کے مینجمنٹ سے وابستہ ہیں۔

پریم جی نے کہا: ہم نے تنظیم کی پرتیں کھولنے کی کوشش کی ہے اور اپنے کاروباری رہنماؤں کو پیداواری ذمہ داری کے زیادہ بڑے درجے تک اختیار دیا۔ ہم نے مینجمنٹ عملے کی پوری پرت کو بدل کر رکھ دیا۔

2002 اور 2003 کے درمیان، وپرو نے US مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے دو IT سے متعلق فرموں کو حاصل کیا۔ وپرو جو خدمات فراہم کرنے والی کمپنی تھی اب مصنوعات بنانے والی کمپنی بن رہی ہے۔ آج وہ IT مصنوعات کے فروغ میں دوسری کمپنیوں کے ساتھ شریک ہے تاکہ وہ تجربہ حاصل کر سکے اور اپنی شناخت قائم کر سکے۔

یکم مئی 2006 کے اپوک ٹائمز (وائٹنگٹن ڈی سی) کے لیے لکھے گئے

Heide B Malhotra کے مضمون سے ماخوذ

تنظیم کاری کے عمل سے یہ امر یقینی ہو جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کے دوران جو مقاصد طے کیے گئے تھے ان کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں، وسائل کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اور سبھی لوگ اجتماعی اور موثر طور پر ایک مشترکہ مقصد کے تحت کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح ایک موثر مینجمنٹ کی وجہ سے ہی تنظیم کاری کے عمل کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تنظیم کاری منصوبوں کو عملی شکل دینے کا ایک ذریعہ ہے۔

تنظیم کاری کا عمل ایک تنظیمی سانچے کی تخلیق میں رہنمائی کرتا ہے جس میں صاف طور پر ہنرمند لوگوں کے ذریعے پُر کیے جانے والے عہدے داروں کے کاموں کی تشکیل نیز ان عہدے داروں کے کاموں کے بین باہمی تعلق کی تعریف بھی شامل ہے۔ تاکہ فرائض کی انجام دہی میں کسی بھی قسم کے ابہام کو دور کیا جاسکے۔ یہ بات نہ صرف یہ کہ عملے کے درمیان پیداواری تعاون کے لیے لازمی ہے بلکہ ان کے اختیارات کے حدود کی وضاحت کے لیے، سرگرمیوں کی منطقی گروپ بندی کے لیے اور اس بات کے لیے بھی ضروری ہے کہ نتائج کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔

مفہوم (Meaning)

تنظیم کاری کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے آئیے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی اس طرف دھیان دیا ہے کہ اسکول کا میلہ (Fete) جس سے آپ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں کس طرح منعقد کیا جاتا ہے؟ اس کی کامیابی میں کن کن باتوں کا عمل دخل ہوتا ہے؟ اس تمام سرگرمی کو چند گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر گروپ کو ایک مخصوص کام سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے غذائی

ایک مرتبہ جب منصوبے طے کر لیے جاتے ہیں اور مقاصد کی صراحت کر دی جاتی ہے تو اگلا قدم وسائل کو اس طرح منظم کرنا ہوتا ہے کہ مقاصد کا حصول ہو سکے۔ منصوبہ بندی کے عمل میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں ایک نازک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موثر کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے تنظیم کے کام کی تشکیل کی جائے۔ کسی کاروباری مہم کو اس طور پر منظم ہونا چاہیے کہ منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ لاگو کیا جاسکے۔ منصوبہ بندی کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے کچھ امور پر دھیان دینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ضروری وسائل کو استعمال میں لا کر ممکن الحصول کام انجام دیے جائیں نیز یہ بھی کہ مقاصد کے حصول کے لیے ملازمین کو بااختیار بنایا جائے اور اس طرح ان کو ذمہ دار بھی بنایا جائے۔

ساری دنیا میں ایک کامیاب ٹیکنالوجی کمپنی بن جانے کے لیے وپرونے جو طریقہ کار اختیار کیا اس سے ظاہر ہے کہ منصوبوں کو عمل میں لانے کے لیے تنظیم کاری کا بہت اہم کردار ہے۔

دنیا کی دیگر قد آور کمپنیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وپرونے اور کیا کیا قدم اٹھائے؟ کیا وپرو کے طریق کار سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے۔

وپرونے بہت انوکھے ڈھنگ سے تنظیم کاری کی۔ اس نے تنظیم کو صارف جہتی (Customer-Oriental) بنا کر اس بات کو دیگر مقاصد پر فوقیت دی اور پیداوار کی بنیاد پر تنوع بھی پیدا کیا۔ وپرونے مقاصد اور مینجمنٹ کے درمیان توافق پیدا کرنے کے لیے، مینجمنٹ کے نظام مراتب (Hierarchy) میں بھی اصلاحات کیں۔

فرض کیجیے موسم گرما کی چھٹیوں میں بارہ طالب علم اسکول لائبریری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک سہ پہر ان سے کہا جاتا ہے کہ نئی کتابوں کی کھپ کو اتارا جائے، انھیں کتب خانہ کی الماریوں میں رکھا جائے اور پھر تمام بیکار چیزوں (پشتاروں اور کاغذوں وغیرہ) کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اگر تمام طالب علم اس کام کو اپنے اپنے طور پر انجام دیں تو اس سے بڑی الجھن پیدا ہوگی۔ کام کو تقسیم کر کے اور اس کو الگ الگ طلباء کو سپرد کر کے بہتر طور پر اور بہت جلدی کام انجام دیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بیان سے کام کی تنظیم کاری کے درج ذیل اقدامات سامنے آتے ہیں:

(i) کام کی نشان دہی اور تقسیم (Identification & Division of Work): تنظیم کاری کے عمل میں پہلا قدم یہ ہے کہ کام کی نشان دہی اور تقسیم اس طور پر کی جائے کہ وہ کام جسے انجام دیا جانا ہے اسے طے شدہ منصوبوں کے مطابق قابل عمل سرگرمیوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ کام کے دودو بار

کمپٹی، سجاوٹ کمیٹی اور ٹکٹ کمیٹی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کام اس جشن کے متعلقہ انچارج کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ مختلف گروپوں میں تال میل اور تعاون قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس جشن کے لیے ہر گروپ کی خدمات میں خوش گوار رابطہ رہے۔ مذکورہ تمام سرگرمیاں جشن کی تنظیم کاری کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تنظیم کاری سے مراد وہ عمل (Process) ہے جو انسانی کوششوں میں تال میل پیدا کرتا ہے۔ وسائل کو مجتمع کرتا ہے اور انسانی کوششوں اور وسائل کے ایک متحدہ گُل کو طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک متحدہ نظام میں جوڑتا ہے۔

تنظیم کاری ایک عمل (Process) ہے جو ملازمین کے فرائض اور ان کے باہمی رشتوں کی وضاحت کر کے نیز وسائل کو موثر طور پر فروغ دے کر منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا ہے، تاکہ مطلوبہ نتائج اور مقاصد حاصل ہوں۔

عمل تنظیم کاری کے اقدامات

یہ اقدامات مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آئیے ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تنظیم کاری کس طرح انجام دی جاتی ہے۔

تنظیم کاری کی تعریف (Definition of Organising)

تنظیم کاری کیے جانے والے کام کی نشاندہی کرنے اور گروپ بندی یا شعبہ کاری کرنے کا عمل ہے۔ اس میں اختیار اور ذمہ داری کو واضح کیا جاتا ہے اور انھیں تفویض کیا جاتا ہے نیز مقاصد کے حصول کے لیے تعلقات کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آپس میں مل کر زیادہ موثر طریقہ سے کام کو انجام دے سکیں۔

لوئیس ایلمن (Louis Allen)

تنظیم کاری ادارے کی سرگرمیوں کو واضح کرنے اور گروپ بندی کرنے نیز ان کے درمیان اختیار کے تعلقات کو قائم کرنے کا عمل ہے۔

تھیو ہیمین (Theo Haimman)

اس بارے میں سوچیے (Think About It)

آپ کے اسکول میں معاون نصابی سرگرمیوں (Extra-curricular activities) کے لیے مختلف سوسائٹیاں ہوں گی جیسے ڈراما سوسائٹی، کونز کلب، علم معاشیات کی سوسائٹی اور بحث و مباحثہ سوسائٹی وغیرہ۔ ان سوسائٹیوں نے اپنی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں محنت کی تقسیم نیز اپنے کام کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ترسیل کی زنجیر کے جن طریقوں کا استعمال کیا ہے ان کی فہرست تیار کیجیے اور ان کا مشاہدہ کیجیے۔ آپ جس عمل کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں یہ اس سے کس قدر یکساں ہے؟

جائے جو اسے انجام دینے کے سب سے زیادہ موزوں ہوں۔

(iv) رپورٹنگ تعلق قائم کرنا (Establishing Reporting Relationship)

مخلص کام کی تفویض ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ ہر فرد کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ اسے کس سے ہدایات اور احکام لینے ہیں اور کس کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ وہ اس طرح کے واضح تعلق قائم ہونے سے نظام مراتب (Hierarchal Structue) کے بنانے میں مدد ملتی ہے نیز اس سے مختلف شعبوں کے مابین تال میل میں بھی مدد ملتی ہے۔

تنظیم کاری کی اہمیت**(Importance of Organising)**

تنظیم کاری کے عمل کی بجا آوری سے ایک فعال کاروباری ماحول کے اندر کاروباری ادارے کے خوش گوار معاملات کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ تنظیم کاری کے عمل سے کسی کاروباری ادارے کی بقا اور فروغ میں مدد ملتی ہے اور اس طرح ایک ادارہ مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔

ہونے سے بچا جاسکے نیز کام کے بوجھ کو ملازمین کے مابین تقسیم کیا جاسکے۔

(ii) شعبہ کاری (Departmentalisation):

کام کو ایک مرتبہ چھوٹی اور قابل عمل سرگرمیوں میں تقسیم کرنے کے بعد یکساں نوعیت کی سرگرمیوں کو یکجا کر دیا جائے۔ کام کی ترتیب کا یہ عمل شعبہ کاری کہلاتا ہے۔ شعبہ کاری کے لیے مختلف معیاروں کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ علاقہ (شمالی، جنوبی، مغربی وغیرہ) اور مصنوعات (کل پرزے، کپڑے اور کاسمیٹکس وغیرہ) ان بنیادوں کی مثالیں ہیں۔

(iii) فرائض کی تفویض (Assignment of Duties):

یہ ضروری ہے کہ کام مختلف ملازمین کو تفویض کیا جائے۔ ایک مرتبہ شعبوں کی تشکیل ہو جائے تو پھر ہر ایک شعبہ ایک فرد کے چارج میں دے دیا جائے۔ پھر ہر شعبے کے ممبران کو ان کی فنی مہارتوں اور اہلیت کے مطابق عہدوں کا تعین کر دیا جائے۔ مؤثر کارکردگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک عہدے کی نوعیت اور ایک فرد کی صلاحیت کے مابین ہم آہنگی ہو جائے۔ کام صرف ان لوگوں کو تفویض کیا

حاصل اختیارات اور ذمہ داریوں کے حدود مقرر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

(iii) وسائل کا بھرپور استعمال (Optimum)

(Utilisation of resources): تنظیم کاری

سے تمام میٹیریل، مالی اور انسانی وسائل کے مناسب استعمال کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ کاموں کی

مناسب تفویض سے کام گڈ ٹڈ نہیں ہوتے اور اس سے وسائل کا بہترین استعمال بھی ممکن ہو جاتا ہے۔

اس سے کام دوبارہ نہیں ہوتا اور نتیجتاً وسائل اور کوششیں برباد نہیں جاتیں۔

(iv) تبدیل سے توافق (Adaptation of)

(Change): تنظیم کاری عمل کاروباری ادارہ کو

کاروباری ماحول میں تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تنظیمی ڈھانچے کو اس بات کی بھی

اجازت دیتا ہے کہ اس میں مناسب طور پر ترمیم کی جاسکے نیز مینجمنٹ کی سطحوں میں باہمی رابطوں پر

نظر ثانی کر کے خوش گوار لین دین کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ یہ ادارے کے استحکام کا بھی ضامن ہے

کیوں کہ تبدیلیوں کے باوجود بھی اس سے ادارہ زندہ رہتا اور ترقی بھی کرتا ہے۔

(v) موثر انتظام (Effective Adminis-

tration): تنظیم کاری مفوضہ کاموں اور متعلقہ

فرائض کی صاف ستھری تصویر فراہم کرتی ہے۔ اس سے شک و شبہات اور دہرے پن کو دور کرنے

میں مدد ملتی ہے۔ کارکنوں کے روابط میں صاف ستھرے پن سے کاموں کی مناسب انجام دہی

کسی بھی کاروباری ادارے میں مقررہ کاموں کو خاطر خواہ طور پر انجام دینے اور کامیابی کے ساتھ نشانوں کو حاصل کرنے

کے لیے ضروری ہے کہ تنظیم کاری کے عمل کو باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ درج ذیل نکات سے کسی بھی

کاروباری ادارے میں تنظیم کاری کے کلیدی رول پر روشنی پڑتی ہے۔

(i) اختصاص کے فوائد (Benefits of)

(Specialisation: ملازمین Work)

force کے مابین کاموں کی باضابطہ تفویض کے لیے تنظیم کاری خوب رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے نہ

صرف کام کا بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ پیداوار میں بھی بڑھوتری ہوتا ہے کیوں کہ اس طور پر مخصوص کارکنان

باقاعدگی کے ساتھ ایک مخصوص کام کو انجام دیتے ہیں۔ ایک مخصوص کام کی بار بار انجام دہی سے ایک

کارکن کو اس میدان میں خاطر خواہ تجربہ ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کو کام میں خصوصی مہارت پیدا

ہو جاتی ہے۔

(ii) کام سے متعلق تعلقات کی وضاحت (Clarity

: in working Relationship)

(v) کارکنوں کے درمیان رشتوں کے قیام سے رسل و رسائل (Communication) کے خطوط کی

وضاحت ہوتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس کو رپورٹ لینی ہے اور کس کو دینی ہے۔ اس سے

اطلاعات اور ہدایات کی منتقلی میں ابہام دور ہو جاتا ہے۔ اس سے نظام مراتب (Hierarchical Order) کی تشکیل میں مدد ملتی ہے اور کسی فرد کو

اس کے بارے میں سوچیے

تنظیم کاری سے کام میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک ہی کام کو بار بار کرتے رہنے سے اکتاہٹ، دباؤ، بے لطفی اور کام سے غائب رہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ نیچر حضرات اس صورت حال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟

جگہ نئے چیلنجوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تنظیم کاری سے ایک کاروباری ادارے میں نوکریاں بڑھتی ہیں، شعبوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مصنوعات میں بھی تنوع اور اضافہ ہوتا ہے۔ کاروبار کو نئے جغرافیائی علاقوں میں وسیع کیا جاسکتا ہے مزید یہ کہ اس سے صارف رنجی فروخت اور منافع کے اضافے میں مدد ملتی ہے۔ لہذا تنظیم کاری ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نیچر ابتری کی جگہ نظم و ضبط لاسکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان کام یا ذمے داری پر لڑائی جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے اور اجتماعی کام کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکتا ہے۔

تنظیمی ڈھانچہ

(Organisation Structure)

تنظیمی ڈھانچہ تنظیم کاری کا نتیجہ ہوتا ہے اور ایک مؤثر ڈھانچے سے کاروباری ادارے کی منافع انگیزی (Profitability) میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کاروباری ادارہ جب پھیلتا اور ترقی کرتا ہے تو اسے ایک مناسب تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کاروباری ادارے کسی ایک ہی ڈھڑے پر جمے رہتے ہیں ترقی نہیں کر پاتے۔ بہر حال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کا جمود و تعطل کسی ادارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیوں کہ وہ کمپنیاں جو مطلق تبدیلی نہیں

ممکن ہوتی ہے۔ اور اس سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔
(vi) **عملے کا فروغ (Development of Personnel)**: تنظیم کاری سے نیچر حضرات کے مابین تخلیقی رجحان ابھرتا ہے۔ موثر تفویض سے نیچر حضرات کے کام کا بوجھ کم ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنے ماتحتوں کو روز مرہ کے کام تفویض کر دیتے ہیں۔ چوں کہ ہر فرد کی کارکردگی کی اہلیت محدود ہوتی ہے اس لیے تفویض کے ذریعے کام کے بوجھ کو کم کرنا محض ضروری ہی نہیں بلکہ اس لیے بھی کہ نیچر حضرات کو کاموں کے انجام دینے کے نئے نئے طریقوں کو فروغ دینے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے انہیں ترقی کے میدان دریافت کرنے کا وقت مل جاتا ہے نیز کمپنی کی مقابلہ جاتی صورت حال کو مضبوط کرنے کے لیے جدید کاری کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اختیارات اور کاموں کی تفویض (Delegation) سے ماتحتوں میں موثر کارکردگی کی صلاحیت کو فروغ ملتا ہے اور اس سے انہیں اپنی تمام تر مہارتوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔

(vii) **توسیع و ترقی (Expansion & Growth)**: تنظیم کاری سے کسی کاروباری ادارہ کی ترقی اور توسیع میں مدد ملتی ہے اس طرح وہ موجودہ اصول و ضوابط کی

ایک مناسب تنظیمی ڈھانچہ ایک بہتر ترسیل اور کاروباری ادارے کے معاملات کو صحیح طور پر کنٹرول کرنے کے لیے لازمی ہے۔

ایک تنظیمی ڈھانچہ وہ خاکہ فراہم کرتا ہے جس کے باعث ادارہ شعبوں اور افراد کی ذمہ داریوں کو باضابطہ بنا کر اور ان میں ارتباط پیدا کر کے ایک متحد اکائی کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر: کچھ عرصہ پہلے سمیتا نے اپنی ٹریول ایجنسی کا آغاز کیا۔ اس نے حسب ذیل طریقے سے اپنے تین ملازمین کو کام تفویض کیا۔ ”نیہا، تم ہوائی جہاز، ریل اور بس کی ریزرویشن کی انچارج ہو۔ کرن! تم رہائشی بنگ کو سنبھالو گے:

ساحل! آپ آن لائن استفسار (on Line queries) اور کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیوں کا کام انجام دیتے رہیں۔ میں آپ تینوں سے باقاعدہ رپورٹ چاہتی ہوں۔“ اس طرح چند جملوں میں ہی ایک تنظیمی ڈھانچہ تیار ہے جس میں اختیارات بھی طے ہو گئے اور ذمے داریاں بھی۔

تنظیمی ڈھانچوں کی قسمیں (Types of organisation Structures)

کسی تنظیم کے ذریعے اختیار کیے گئے ڈھانچے کی قسم اس کے ذریعے انجام دی جانے والی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی۔ تنظیمی ڈھانچے کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو درج ذیل ہیں:

کرتیں یا تو بند ہو جاتی ہیں یا ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے کوئی تنظیم ترقی کرتی ہے نئے شعبوں اور

ساختیاتی نظام مراتب (Structural Hierarchies) کے سبب تال میل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوش اسلوبی کے ساتھ کسی تنظیم کے چلنے نیز ماحولیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کی طرف خصوصی توجہ دے۔

پیٹر ڈریکر (Peter Drecker) ایک مناسب تنظیمی ڈھانچے کی اہمیت کو یہ کہہ کر واضح کرتا ہے: ”تنظیمی ڈھانچہ ایک ناگزیر ذریعہ ہے اور ایک غلط ڈھانچہ کاروباری صلاحیت کو سخت نقصان پہنچانے کا سبب ہے حتیٰ کہ غلط ڈھانچہ کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔“

تنظیمی ڈھانچے کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے مینجمنٹ سے متعلق امور اور کاروبار کے تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ اس سے افراد، وسائل اور کاموں کے درمیان رشتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس سے انسانی، طبعی اور مالیاتی ذرائع کے مابین باہمی تعلق اور تال میل ظاہر ہوتا ہے اور اس سے ایک کاروباری ادارہ اپنے مطلوبہ نشانوں کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک فرم کے تنظیمی ڈھانچے کو اگلے صفحے پر تنظیمی چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔

مینجمنٹ کا پھیلاؤ بڑی حد تک مینجمنٹ ڈھانچے کو شکل دیتا ہے۔ مینجمنٹ کے پھیلاؤ سے مراد ہے کہ ماتحتوں کی وہ تعداد جو کسی اعلیٰ افسر (Superior) کے ذریعے موثر طور پر منظم کی جاسکے۔ یہ پھیلاؤ ڈھانچے کے مینجمنٹ کی سطحوں کو متعین کرتا ہے۔


ہونڈا (Honda) اپنے تحقیق و ترقی کے ڈھانچے کو مضبوط و مستحکم کرتے ہوئے

کارپوریٹ 21، فروری 2006

ٹوکیو، جاپان، 21 فروری 2006۔ ہونڈا موٹر لمیٹڈ نے یکم اپریل 2006 سے شروع ہونے والے ہونڈا R&D کمپنی لمیٹڈ کے لیے ایک نیا تنظیمی ڈھانچہ جاری کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ یہ ہونڈا کی ایک مکمل طور پر نئی معاون کمپنی ہے جو تحقیق و ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے ذمے دار ہے۔ ٹیکنالوجی میں ہونے والی حالیہ ترقیات اور کاروبار میں مسلسل توسیع کے سبب ہونڈا آر اینڈ ڈی میں تیار ہونے والے تکنیکی کل پرزوں اور گاڑیوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اس صورت حال اور مستقبل میں کاروبار کی مزید توسیع کو نظر میں رکھتے ہوئے نیا ڈھانچہ شروع ہوگا۔ اس نئے ڈھانچے کے شروع ہونے سے کاروبار سے وابستہ سبھی لوگ کاروبار کے فروغ کے لیے نئے نئے اقدامات کر سکیں گے اور یہ بھی طے کر سکیں گے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس کا کیا رول ہے۔ اس سے اختیارات کی جرأت مندانہ تفویض بھی سہل ہوگی۔ اس نئے ڈھانچے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ترسیل (Communication) بہتر ہو جائے اور نتیجتاً تنظیم کے اندر فیصلہ سازی کے عمل میں تیزی آسکے۔ نئے تنظیمی ڈھانچے کے کلیدی نکات درج ذیل ہیں۔

نئی ساخت کا خاکہ

- 1- موجودہ آر اینڈ ڈی سینٹرس، اساکا آر اینڈ ڈی سینٹر، واکو آر اینڈ ڈی سینٹر اور ٹوچیگی آر اینڈ ڈی سینٹر پر مشتمل ہے جو فی الوقت جغرافیائی علاقے کی بنیاد پر منظم ہیں اور جو مخصوص کاموں کی بنیاد پر پانچ مرکزوں میں دوبارہ منظم کیے جائیں گے۔ ان پانچ نئے مرکزوں کے نام ہوں گے موٹر سائیکل ڈیولپمنٹ سینٹر، آٹو موبائل ڈیولپمنٹ سینٹر، پاور پروڈکٹس ڈیولپمنٹ سینٹر، ایرو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ سینٹر اور بیسک ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر۔
- 2- ہر مرکز کا دفتر الگ ہوگا، منصوبہ بندی، پیداواری ترقی، تکنیکی، ترقی اور انتظامی امور میں ان میں سے ہر ایک کا ایک طے شدہ کردار ہوگا۔
- 3- کاروباری معاملات کے لیے فیصلے لینے کا بنیادی اختیار جو فی الوقت ہر سینٹر کے سربراہ کے ذمے ہے۔ ہر مرکز میں واقع دفتر کے سربراہ کے ذمے ہوگا تاکہ وہ ایک خود مختار عملی ڈھانچہ تیار کر سکے اور تمام ضروری فیصلے لے سکے۔



- 4- ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ تیار کیا جائے جو سادہ ہو اور جس میں زیادہ تنظیمی طبقے ہوں۔ اس کے نتیجے میں دفتر کے سربراہ اور دیگر وابستگان کے درمیان براہ راست ترسیل آسان ہو جائے گی۔
- 5- آٹوموبائل ڈیولپمنٹ سینٹر کے پیداواری ترقی کے کام کو ہونڈا برانڈ اور ایکویرا برانڈ کے مابین مزید علاحدہ کیا جائے گا۔ یہ ساختیاتی تبدیلی ہونڈا کی مسلسل کوششوں کا ایک حصہ ہے تاکہ ہونڈا کی بنیادی خصوصیات کو مستحکم اور منفرد بنایا جاسکے۔ مقصد یہ ہے کہ جدید اور تخلیقی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کو جاری رکھا جائے جو ہونڈا کے لیے بے مثال ہیں اور ہونڈا ایک ایسی کمپنی بن جانے کا عمل جاری رکھے جس کو سماج چاہتا ہے۔

[http://worldhonda.com/news/2006/CO60221 Round D Operations](http://worldhonda.com/news/2006/CO60221_Round_D_Operations)

روپ ہے جو ایک جیسے یا باہم مربوط کاموں کی زمرہ بندی کرتا ہے۔


- (i) عملی ساخت (Functional Structure)
- (ii) تقسیمی ساخت (Divisional Structure)

فوائد (Advantages): عملی ساخت کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم درج ذیل ہیں:

- (a) عملی ساخت پیشہ وارانہ مہارت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیوں کہ یہاں خصوصی کاموں کی طرف توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ اس سے انسانی وسائل کے استعمال کو فروغ ہوتا ہے۔ کیوں کہ ملازمین ایک ہی شعبے میں ایک ہی طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اس طرح ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔
- (b) اس سے ایک ہی شعبے میں کنٹرول اور تال میل کو تقویت ملتی ہے کیوں کہ انجام دیے جانے والے کاموں میں یکسانیت ہوتی ہے۔

عملی ساخت (Functional Structure)

ایک جیسے کاموں کو کسی ایک فنکشن کے تحت زمرہ بند کرنے اور پھر ایسے بڑے بڑے فنکشنوں کی الگ الگ شعبوں میں تنظیم کاری کرنے سے عملی ساخت (Functional Structure) وجود میں آتی ہے۔ یہ تمام شعبے ایک رابطہ افسر (Co-ordinating Lead) کو رپورٹنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مینوفیکچرنگ کمپنی پیداوار، خریداری، مارکیٹنگ، اکاؤنٹس اور ملازمین وغیرہ جیسے کام الگ الگ کلیدی فنکشنوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان شعبوں کو مزید تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ لہذا عملی ساخت ایک ایسا تنظیمی



- (c) اس سے مینجمنٹ اور ملازمین کی عملی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجے میں کاروبار کے منافع میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
- (d) اس کے نتیجے میں کام دو دو بار نہیں ہوتا اور اس طرح کوششیں ضائع نہیں ہوتیں بلکہ ان کی بڑے پیمانے پر کفایت شعاری ممکن ہوتی ہے اور جس سے لاگتوں میں کمی آتی ہے۔
- (e) اس سے ملازمین کی تربیت آسان ہو جاتی ہے کیوں کہ مہارتوں کے محدود حلقے پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔
- (f) تمام کام توجہ سے انجام پاتے ہیں۔
- نقصانات (Disadvantages): عملی ساخت کے کچھ نقصانات بھی ہیں جنہیں ہر تنظیم کو عملی ساخت کے اس طریقے کے اختیار کرنے سے پہلے ہر تنظیم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔
- (a) عملی ساخت (Functional Structure) میں عملی سربراہ کے ذریعے طے کردہ مقاصد کے مقابلے کاروباری ادارے کے مجموعی مقاصد پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس طریق کار سے عملی تجارتی ادارے (Functional Empires) پروان چڑھتے ہیں۔ جہاں کسی خاص کام کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ شعبہ جاتی مفادات کو تنظیمی مفادات کی قیمت پر رکھا جاتا ہے اس سے دو یا
- دو سے زیادہ شعبوں کے مابین تعامل (Interaction) میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
- (b) اس سے تال میل کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کیوں کہ اطلاعات کا تبادلہ ان تمام شعبوں ہی میں ہوتا ہے جو عملی طور پر ممتاز ہوتے ہیں۔
- (c) اگر دو یا دو سے زیادہ شعبوں میں باہم توافق نہ ہو تو مفادات کی کشمکش پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شعبہ فروخت صارفین دوست (Customer Friendly) اسکیموں پر بھند ہو تو اس سے پیداواری مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ان تنظیمی مفادات کی تکمیل میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ الگ الگ ذمہ داریاں طے نہ ہونے کی صورت میں شعبوں کے مابین کشمکش پیدا ہو سکتی ہے۔
- (d) اس سے غیر لچک دار انداز کو طاقت ملتی ہے۔ کیوں کہ یکساں مہارتوں اور علم والے لوگوں سے تنگ نظری فروغ پاسکتی ہے اور اس طرح وہ دوسرے کے نقطہ نظر کی تعریف نہیں کریں گے۔ عملی سربراہوں (Functional Heads) کو مینجمنٹ کے اعلیٰ عہدوں کی تربیت حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ ان کو مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل نہیں ہوتا۔
- موزونیت (Suitability): جب کسی تنظیم کا سائز بڑا ہو اس کی سرگرمیاں مختلف النوع ہوں اور اس کے

اس کے بارے میں سوچیے

باقاعدگی سے اخبار پڑھیے اور مختلف کاروباری تنظیموں کی ساختوں کی نشان دہی کیجیے۔ کیا ان کی ساختوں نے کچھ بہتر صورت اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔

دوسرے الفاظ میں ہر ڈویژن کے اندر عملی ساخت کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال مختلف ڈویژنوں اور شعبوں میں مصنوعات کے لحاظ سے کام مختلف ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہر ڈویژن نفع کے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کا سربراہ اپنے ڈویژن کے نفع یا نقصان کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بڑے پیمانے کی کمپنی میں کونٹریکٹس، اور کپڑوں وغیرہ کے ڈویژن ہو سکتے ہیں۔

فوائد: تقسیمی ساخت کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم درج ذیل ہیں:

(a) مصنوعاتی تخصیص سے ڈویژنل سربراہ میں مختلف طرح کی مہارتوں کے فروغ میں مدد ملتی ہے جس سے وہ اعلیٰ مراتب کے لائق ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ ایک مخصوص پیداوار، سے متعلق تمام کاموں کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے۔

(b) ڈویژنل سربراہ منافع کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیوں کہ مختلف شعبوں سے متعلق ریونیو اور لاگتوں کی شناخت کر کے ذمہ داری کو ان کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ اس سے کارکردگی کی جانچ کے لیے مناسب بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ یہ کسی ڈویژن کی ناقص کارکردگی کی صورت میں ذمہ داریوں کو بھی طے کر سکتی ہے اور اس طرح مناسب تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں۔


(c) اس سے لچیلے پن اور تخلیقیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے کیوں کہ ہر ڈویژن ایک خود مختار اکائی کے طور پر کام کرتا ہے جس سے فیصلہ سازی میں تاخیر نہیں ہوتی۔

کاروباری معاملات میں اعلیٰ درجے کی مہارت و تخصیص کی ضرورت ہو تو یہ عملی ساخت زیادہ مناسب رہتی ہے۔

تقسیمی ساخت (Divisional Structure)

بہت سی بڑی تنظیموں نے جن کی مختلف النوع سرگرمیاں ہیں، اپنے آپ کو سادہ اور بنیادی عملی ساخت کے بجائے تقسیمی ساخت کے طور پر منظم کیا ہے جو ان کی سرگرمیوں کے لیے زیادہ مناسب و موزوں ہے۔ یہ خاص طور پر ان کاروباری اداروں کے لیے زیادہ مناسب ہے جو ایک سے زائد مصنوعات کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ ہر تنظیم ایک ہی جیسے مختلف کاموں کو انجام دیتی ہے لیکن چونکہ ان کے پیداواری زمروں میں تنوع ہوتا ہے اس لیے ایک زیادہ ارتقا یافتہ ساختیاتی ڈیزائن (Structural Design) کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تنظیم پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے نبرد آزما ہو سکے۔

ایک تقسیمی ساخت میں تنظیمی ڈھانچہ علاحدہ کاروباری اکائیوں یا ڈویژنوں (Divisions) پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر اکائی کا ایک ڈویژنل مینیجر ہوتا ہے جو کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اس اکائی کا مختار ہوتا ہے۔ عام طور پر انسانی قوت کی زمرہ بندی مختلف مصنوعات کی پیداوار بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ہر اکائی کثیر عملی ہوتی ہے کیوں کہ ہر ڈویژن کے اندر پیداوار، مارکیٹ، مال اور خریداری وغیرہ سے متعلق کاموں کو یکجا طور پر انجام دیا جاتا ہے تاکہ مشترکہ مقصد کو حاصل کیا جاسکے۔ ہر ڈویژن اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے کیوں کہ اسے کاروباری مصنوعات سے متعلق تمام کاموں میں مہارت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔



(d) نئی مصنوعات کے لیے موجودہ کاموں (Operations) میں کسی خلل اندازی کے بغیر صرف ڈویژنل سربراہ اور عملہ کے اضافے سے ہی نئے ڈویژن کھولے جاسکتے ہیں اس لیے اس سے توسیع اور ترقی کو فروغ ہوتا ہے۔

(c) اس سے کسی ڈویژن کی تمام سرگرمیوں سے متعلق مینجروں کو اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مینجر کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنی آزادی حق پر جمے رہتے ہوئے وہ تنظیمی مفادات کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔

نقصانات (Disadvantages): ڈویژنل ساخت کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

(a) فنڈ کے اختصاص کے معاملے میں مختلف ڈویژن میں تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ نیز ایک ڈویژن دوسرے ڈویژنوں کی قیمت پر اپنے منافعوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔

(b) اس سے لاگتوں میں اضافے کے امکانات بھی ہیں کیوں کہ مصنوعاتی سرگرمیاں ایک بار سے زیادہ بھی انجام پذیر ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی جیسے کام کے لیے الگ الگ ڈویژنوں کو پیسوں اور سہولتوں کی فراہمی سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔

موزونیت (Suitability): ڈویژنل ساخت ان کاروباری اداروں کے لیے مناسب ہے جہاں مختلف پیداواری وسائل کا استعمال کر کے مختلف النوع مصنوعات کی پیداوار ہوتی ہے۔ جب کسی تنظیم کی توسیع و ترقی ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اس کو ملازمین کے اضافے، مزید شعبوں کے قیام اور مینجمنٹ کی نئی سطحوں کو متعارف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈویژنل ساخت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹیبل 1 میں عملی ساخت اور تقسیمی ساخت کا موازنہ کیا گیا ہے تاکہ اس موضوع سے متعلق مزید وضاحت کی جاسکے۔

لہذا کہا جاسکتا ہے کہ کاروبار ایک موثر ماحول میں ہی چل پاتا ہے اور وہ کاروباری ادارے جو تبدیلی کو

رسمی اور غیر رسمی تنظیم (Formal & Informal Organisation)

تمام تنظیموں میں، اصول و ضوابط اور طریقہ کار ملازمین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کاروباری ادارے کے کاموں کو ڈھنگ سے چلانے کے لیے سوچنے گئے کاموں کی وضاحت اور طریقہ کار سے متعلق اصول و ضوابط کا تعین کرنا ضروری ہے۔ یہ رسمی تنظیم (Formal Organisation) کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

اپنانے میں ناکام ہوتے ہیں، ان کا وجود غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ لہذا مینجمنٹ کو اپنے منصوبوں اور مقاصد پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو تنظیمی ڈھانچے میں وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تنظیمی ساخت کو ہمہ وقت کاروباری ادارے کے مقاصد کے حصول کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے نئے نئے قدم اٹھانے چاہئیں تاکہ عملے (Personnel) کی خدمات بھرپور اور موثر ہو سکیں۔

عملی اور تفصیلی ساختوں کا موازنہ

تفصیلی ساخت	عملی ساخت	بنیاد
تشکیل مصنوعات کے پیمانے پر ہوتی ہے جس کی تصدیق کاموں سے ہوتی ہے۔	تشکیل کاموں کی بنیاد پر ہوتی ہے	تشکیل
مصنوعاتی تخصیص و مہارت	عملی تخصیص	تخصیص
کارکردگی کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنا آسان	کسی ایک شعبے پر ذمہ داری ڈالنا مشکل ہے	ذمہ داری
آسان تر، خود مختاری نیز مختلف النوع کاموں کو انجام دینے کا موقع مینجمنٹ کے فروغ میں مددگار ہوتا ہے۔	مشکل، کیوں کہ ہر عملی مینجر (Functional Manager) کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ مینجمنٹ کو باخبر رکھے	مینجمنٹ کا فروغ
مختلف شعبوں میں وسائل کو بار بار دہرائے جانے کے سبب مہنگی	کاموں کو بار بار نہ دہرائے جانے کے سبب کفایتی	لاگت
آسان، کیوں کہ ایک خاص شے سے متعلق تمام کام ایک ہی شعبے میں یکجا اور مکمل ہوتے ہیں	کسی مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی کے لیے مشکل	تال میل

ONGC میں ساختیاتی تبدیلی (Structural Transformation of ONGC)

اپنے آغاز ہی سے ONGC ملک کے اہم لیکن محدود سیکٹر کو ایک بڑا مساوی مواقع والا مشن بنانے میں مصروف ہے جس کا دائرہ کار ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔

1990 کی دہائی ONGC کے لیے بڑی سخت تھی۔ لگ بھگ ایک دہائی کے عرصے میں کارپوریشن غیر یقینی حالات سے ابھرسکی۔ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ، کارپوریشن تنظیمی کمزوری کا بھی شکار تھی۔ ONGC نے اپنی بقا کے لیے MC Kinsey سے بھی مدد حاصل کی۔ Mc Kinsey کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسی تنظیمی ساخت قائم کی جائے جو کاروبار پر مشتمل تنظیموں کے مقابلے اس کی کاروباری ضرورتوں کے لیے موثر ہو۔ ONGC سسٹم جو عملی سربراہوں کے ذریعے لاگو کیا گیا ہے، اس میں اکثر ایک سال سے بھی زیادہ تاخیر ہو جاتی تھی بالخصوص ان معاملات میں جن سے متعلق فی الفور فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ پیداوار کی سطح پر ذمہ داریاں مختلف کاروباری گروپوں میں بٹی ہوئی تھیں اس لیے ذمہ داری قبول کرنے کے مسئلہ پر بھی ایک نزاع موجود تھا۔ اس طرح گروہی وفاداریاں اکثر تقویض کردہ کاموں پر غالب آ جاتی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کارکردگی کی جانچ کا طریقہ کاروباری گروپوں کے پیمانوں کے مطابق تھا۔ مکمل طور پر مختلف میدانوں کی ضروریات کے مخالف تھا۔ Mc Kinsey نے ایک اثاثے (Asset-based Theory) کی تجویز پیش کی جس میں بہت واضح طور پر ذمہ داریوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ Mc Kinsey کی تجاویز کو بڑے پیمانے پر منظور کر لیا گیا لیکن مشترک خدمات سے متعلق تال میل کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔

بالآخر، تمام عملے پر کنٹرول اثاثہ بنجروں کے سپرد کر دیا گیا۔ ان بنجروں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی اکائیوں کے ملازمین کی کارکردگی کی دیکھ بھال کریں۔ یہاں تک کہ حصول طاقت یعنی عہدوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی ذمہ داریاں تقویض کی گئیں۔ بالآخر 14 اثاثوں اور 11 مرکزی خدمات پر مشتمل ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا۔

اسے خود کیجیے

پچھلے صفحہ پر ONGC کے تنظیمی ڈھانچے کو بطور مثال دکھایا گیا ہے۔ دوسری تنظیموں کی ویب سائٹس کھولیں اور ان کے تنظیمی چارٹ کا مطالعہ کیجیے۔ جس ساخت (Structure) کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی نشان دہی کیجیے۔

رسمی تنظیم سے مراد وہ تنظیمی ساخت ہے جو کسی مخصوص کام کے انجام دینے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داریوں اور اختیارات کی حدود کو صاف طور پر واضح کرتی ہے۔ ایسی تنظیم میں مقاصد کے حصول کے لیے مختلف سرگرمیوں کے درمیان ایک باقاعدہ تال میل ہوتا ہے۔

رسمی تنظیم میں ساخت عملی یا تقسیمی (Functional or Divisional) کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ رسمیں تنظیم کو اس کی

رسمی تنظیم (Formal Organisation)

رسمی تنظیم بالکل واضح طور پر طے شدہ کاموں کا ایک نظام ہے، اور ہر کام کی ذمہ داری، جواب دہی اور اختیارات بھی طے شدہ ہیں۔

لوئس ایلین (Louis Allen)

رسمی تنظیم مشترکہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے دو یا دو سے زائد لوگوں کی شعوری طور پر مربوط سرگرمیوں کا ایک نظام ہے۔

چیسٹر برناند (Chester Barnand)

- خصوصیات کے مطالعے کے ذریعے، جو درج ذیل ہیں، بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے:
- (a) یہ ملازمین کے مختلف عہدوں کے درمیان ربط و تعلق کی اور ان کے باہمی تعلق کی نوعیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کون کس کو رپورٹ دے گا اور کس سے لے گا۔
- (b) یہ ان مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جن کی صراحت منصوبوں میں کی جا چکی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کے حصول کے اصول و ضوابط اور طریق کار کا تعین بھی کرتی ہے۔
- (c) رسمی تنظیم کے ذریعے مختلف شعبوں کی کوششوں میں تال میل قائم کیا جاتا ہے۔ ان کو مربوط کیا جاتا ہے اور ان کی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔
- (d) تنظیم کو ڈھنگ سے چلانے کے لیے اعلیٰ مینجمنٹ اس کو با مقصد وضع کرتا ہے۔
- (e) رسمی تنظیم ملازمین کے درمیان باہمی تعلق کے مقابلے ان کے ذریعے انجام پانے والے کام کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے۔
- فوائد (Advantages): رسمی تنظیم بہت سی خوبیوں کی حامل ہے ان میں سے کچھ اہم درج ذیل ہیں:
- (a) ذمہ داریوں کا تعین کرنا آسان تر ہوتا ہے کیونکہ باہمی روابط کی صاف طور پر وضاحت کر دی جاتی ہے۔
- (b) جس شخص کو جو ذمہ داری انجام دینی ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔
- (c) اس سے کوششوں کے دوہرے پن یعنی غیر ضروری طور پر دہرائے جانے سے بچا جاسکتا ہے۔
- (d) کمانڈ کی ایک طے شدہ زنجیر (Chain of Command) کے ذریعے، کمانڈ کی وحدت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔
- (e) رسمی تنظیم، تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک خاکہ مہیا کر کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک موثر کردار ادا کرتی ہے اور یہ بھی یقینی بناتی ہے کہ کس ملازم کو کیا کام انجام دینا ہے۔
- (e) یہ تنظیم کو استحکام بخشتی ہے۔ چوں کہ ملازمین کی رہنمائی

زیادہ ہوتا ہے تو سخت قسم کی کسی رسمی تنظیم کے لیے راہ ہموار نہیں ہوتی البتہ لوگوں کے درمیان باہمی تعلق اور دوستی ہو تو ایسے گروپ تشکیل پاتے ہیں جن کے مفادات یکساں نوعیت کے ہوں۔ جو لوگ کسی چھٹی کے دن کرکٹ میچ کھیلتے ہیں یا کسی کافی ہاؤس وغیرہ میں ملتے ملتے ہیں یا ڈراموں وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں اور جن کے مشترکہ مفادات ہیں ان کے گروپ غیر رسمی تنظیموں کی مثالیں ہیں۔ غیر رسمی تنظیم کا کوئی تحریری اصول نہیں ہوتا۔ یہ اپنی شکل اور دائرہ کار میں رواں دواں ہوتی ہے اور خبر رسانی کے متعین خطوط پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگلے صفحے پر ٹیبل میں غیر رسمی تنظیم کا رسمی تنظیم سے موازنہ کیا گیا ہے تاکہ دونوں قسم کی تنظیموں کے بارے میں بہتر تفہیم حاصل کی جاسکے۔

غیر رسمی تنظیم کو درج ذیل خصوصیات کی مدد سے زیادہ بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

(a) غیر رسمی تنظیم رسمی تنظیم کے اندر ہی سے ملازمین کے مابین ذاتی تعامل (Interaction) کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔

(b) رویوں کے معیار گروپ کے معیاروں ہی سے مرتب ہوتے ہیں نہ کہ باضابطہ متعین طور پر وضع کردہ اصول و ضوابط سے۔

(c) ترسیل کی واضح ہدایات کے بغیر ہی، گروپ کے ممبروں کے درمیان ترسیل کے آزاد چھینل کام کرتے ہیں۔

(d) یہ خود بخود وجود میں آتی ہے اور اسے میجمنٹ کے ذریعے عہد قائم نہیں کیا جاتا۔

(e) اس کی کوئی واضح و متعین ساخت نہیں ہوتی کیوں کہ یہ افراد کے درمیان سماجی تعلقات پر مبنی ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔

کے لیے اصول و ضوابط طے شدہ ہوتے ہیں اس لیے ملازمین کے رویوں کی بھی واضح طور پر پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔

نقصانات (Disadvantages): رسمی تنظیم سے درج ذیل نقصانات ہیں:

(a) رسمی ترسیل کی وجہ سے کارروائی میں تاخیر ہو سکتی ہے کیوں کہ کمانڈ کی طے شدہ زنجیر کے مطابق ہی کام کیا جاتا ہے۔ اس سے فیصلہ سازی میں لیا جانے والا وقت بڑھ جاتا ہے۔

(b) ناقص تنظیمی معاملات کی وجہ سے تخلیقی جوہر کی کھلے دل سے ستائش نہیں ہو پاتی کیوں کہ اس روایتی پالیسی سے انحراف کی اجازت کم ہی ہوتی ہے۔

(c) کسی کاروباری ادارے میں تمام انسانی روابط کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کیوں کہ اس میں زیادہ توجہ ساخت اور کام پر ہوتی ہے۔ لہذا رسمی تنظیم اس بات کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتی کہ ایک تنظیم کیسے کام کرتی ہے۔

غیر رسمی تنظیم

(Informal Organisation)

ملازمین کے درمیان تعامل (Interaction) سے ان کے مابین سماجی تعلقات کا جو نیٹ ورک ابھرتا ہے، وہ غیر رسمی تنظیم کہلاتا ہے۔

جب لوگ اپنے دفتری امور سے ہٹ کر ایک دوسرے سے ملتے ملتے اور تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے تو یہیں غیر رسمی تنظیم کا ایک نیٹ ورک ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے مابین باہمی رابطہ اور تعلق

غیر رسمی تنظیم

ایک غیر رسمی تنظیم بغیر کسی شعوری مقصد کے بین شخص روابط و تعلقات کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن مشترکہ نتائج کے حصول میں معاون ہوتی ہے۔

چیپسٹر برناڈ (Chester Barnard)

غیر رسمی تنظیم ذاتی اور سماجی روابط کا ایک نیٹ ورک ہے جو نہ رسمی تنظیم کے ذریعے قائم ہوتی ہے اور نہ مطلوب ہے۔ لیکن لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط ہونے کے نتیجے میں خود بخود وجود میں آتی ہے۔

کیٹھ ڈیوس (Keith Davis)

تفریق طاقت بن سکتی ہے۔ یہ رسمی تنظیم کے مفاد کے خلاف کام کر سکتی ہے۔

اگر غیر رسمی تنظیم، مینجمنٹ کی نافذ کردہ تبدیلیوں کے مخالف ہو تو، مینجمنٹ کا کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مزاحمت سے کاروباری فروغ میں تاخیر یا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

غیر رسمی تنظیم ممبران پر یہ بھی دباؤ ڈال سکتی ہے کہ اس گروپ کی توقعات کے مطابق ہی کام کریں۔ اگر گروپ کی توقعات تنظیم کے مفادات کے خلاف ہوں تو یہ چیز تنظیم کے لیے نقصان دہ ہوگی۔

غیر رسمی تنظیم کو کلی طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا تنظیم کے بہترین مفاد کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے گروپوں کو تسلیم کیا جائے اور وہ کردار جو ان کے ممبران کو ادا کرنا ہے اس کی نشان دہی کر دی جائے۔ اس قسم کے گروپوں کے علم، مہارت اور ان کی حمایت کو یکجا کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے اور نتیجتاً اس سے تنظیمی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اس طرح کے گروپ مفید ذرائع ترسیل فراہم کر سکتے ہیں۔ ان سے تصادم کے بجائے، مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ رسمی و غیر رسمی

فوائد (Advantages): غیر رسمی تنظیم کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم ذیل میں دیے گئے ہیں۔

- (a) اس میں ترسیل کے مجوزہ خطوط کی پیروی نہیں کی جاتی۔ لہذا غیر رسمی تنظیم میں اطلاعات کی ترسیل بھی تیز ہوتی ہے اور اس سے نتائج بھی جلدی سامنے آتے ہیں۔
- (b) یہ ممبروں کی سماجی ضرورتوں کی تکمیل میں مدد کرتی ہے اور اس میں ہم فکر و ہم خیال لوگ یکجا ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے مابین جو اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اس سے ان کے اندر ملازمت کے تئیں تسکین دیکھائی پیدا ہوتی ہے۔

(c) غیر رسمی تنظیم، رسمی تنظیم کی خامیوں کی تلافی کرتی ہے اور اس کے مقاصد کی تکمیل میں مددگار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر منصوبوں اور پالیسیوں کے معاملے میں ملازمین کے رد عمل کو غیر رسمی نیٹ ورک (Networks) کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے۔

نقصانات (Disadvantages): غیر رسمی تنظیم کے کچھ نقصانات بھی ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔

- (a) غیر رسمی تنظیم، جب انواہیں پھیلا کر ایک موجب

رسمی و غیر رسمی تنظیم کا موازنہ

(Formal and Informal Organisation : A Comparative View)

بنیاد	رسمی تنظیم	غیر رسمی تنظیم
مفہوم	مینجمنٹ کے ذریعے بتائے گئے اختیارات کے رشتوں کی ساخت۔	ملازمین کے درمیان باہمی تعامل (Interaction) سے پیدا شدہ سماجی رشتوں کا نیٹ ورک۔
اصل ماخذ	کمپنی کے اصول و ضوابط اور پالیسی کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے۔	سماجی تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
اختیار	مینجمنٹ میں وعہدے کی صلاحیت کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔	ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر قائم ہوتی ہے۔
برتاؤ	یہ اصول و ضوابط کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔	طریق کار کا کوئی باضابطہ اصول (Pattern) نہیں ہے۔
ترسیل	ترسیل کا بہاؤ ایک منظم زنجیر کے ذریعے ہوتا ہے۔	ترسیل منصوبہ بند نہیں ہوتی یہ کسی بھی سمت واقع ہو سکتی ہے۔
نوعیت	سخت اور بے لوج	لوج دار
قیادت	منیجر قائم ہوتے ہیں	قائد منیجر ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ انھیں گروپ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔

پا جائیں تو اس کو لازمی طور پر اختیارات کی تفویض کرنی پڑے گی۔

اختیارات کی تفویض (Delegation) سے مراد ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے ایک ماتحت کو یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اختیارات کی منتقلی کو موثر طور پر چلانے کے لیے اولین اور لازمی عمل ہے کیوں کہ اسے ایک منیجر اپنے وقت کو اعلیٰ تر جمعی سرگرمیوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے ماتحتوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں اور نیا پن بھی لاسکتے ہیں۔

دونوں تنظیموں کو فنی چابک دستی کے ساتھ اپنا لے تاکہ تنظیم ڈھنگ سے چلتی رہے۔

اختیارات کی تفویض (Delegation)

ایک منیجر، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا ہی اہل ہو، صرف اپنے بل بوتے پر ہر کام کا مینجمنٹ از خود نہیں کر سکتا۔ کام بہت زیادہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ وہ تمام تر مینجمنٹ کو از خود دیکھے۔ اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ تنظیمی نشانوں کی تکمیل ہو، مقاصد پر ضروری توجہ دی جائے اور تمام امور خوش اسلوبی سے انجام

تفویض اختیارات

تفویض اختیار ایک ایسا عمل ہے جو کوئی مینجر اپنے ذمے کاموں کی تقسیم کے لیے انجام دیتا ہے تاکہ وہ صرف وہی کام انجام دے جو اس کے منفرد تنظیمی وقار و مقام کے موافق ہے۔ جنہیں موثر طور پر انجام دے سکتا ہے اور اس طرح باقی بچے کاموں کو دوسروں کی مدد سے انجام دے سکتا ہے۔

لوئس ایلین (Lousin Allen)

تفویض اختیارات کا مطلب بس اتنا ہے کہ اختیارات کو ماتحتوں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ انہیں مجوزہ حدود میں انجام دے سکیں۔

تھیو ہیمین (Theo Haiman)

لوئس ایلین کی تعریف کے تفصیلی تجزیے سے تفویض اختیار کے درج ذیل لازمی عناصر پر روشنی پڑتی ہے۔

(i) اختیارات (Authority) : اختیارات سے مراد وہ حق ہے جو کسی فرد کو اپنے ماتحتوں کی قیادت کے لیے حاصل ہوتا ہے اور اس حق کے سبب وہ اپنے عہدے کے حدود میں اسے استعمال کرتا ہے۔ اختیارات کا نظریہ معینہ عددی زنجیر سے قائم ہوتا ہے جو تنظیم کے مختلف مفوضہ منسوبوں اور سطحوں کو جوڑتا ہے۔ اختیار سے مراد فیصلہ لینے کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ تم کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں نیز یہ کہ ملازمین یا عہدے داران سے کن کن کاموں کی توقع ہے۔ اختیار مینجمنٹ کا جزو لاینفک ہے۔

رسمی تنظیم میں اختیار کسی فرد کے عہدے کے مطابق وجود میں آتا ہے اور اختیار کی توسیع اعلیٰ سطح کے مینجمنٹ سے نچلی سطحوں کی طرف کم ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح اختیار اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے یا یوں کہیے کہ اعلیٰ عہدے داران

اختیارات کی تفویض سے مینجر اپنے کاروباری معاملات کے دائرہ کار کو پھیلا سکتا ہے کیوں کہ اس کے بغیر اس کی سرگرمیاں محض اس حد تک محدود رہ جاتی ہیں جو وہ بذاتِ خود کر سکتا ہے۔ اس لیے تفویض اختیارات کا مطلب کام سے دست برداری یا علاحدگی ہرگز نہیں، مینجر مفوضہ کاموں کی انجام دہی کے لیے پھر بھی جواب دہ ہوگا۔ مزید یہ کہ کسی ماتحت سے تفویض کردہ اختیار کو واپس بھی لیا جاسکتا ہے اور اسے کسی دوسرے شخص کو دوبارہ تفویض کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح، تفویض کردہ اختیارات کی حد سے قطع نظر، مینجر پھر بھی اس حد تک جواب دہ ضرور ہوگا جتنا وہ تفویض سے پہلے تھا۔

تفویض اختیار کے عناصر

(Elements of Delegation)

لوئس ایلین (Louis Allen) کے مطابق، تفویض اختیار کا مطلب ہے ذمے داریوں اور اختیارات کو دوسرے اشخاص کو تفویض کر دینا اور ان کو کارکردگی کے لیے جواب دہ بنانا۔

تفویض اختیار نہ ہونے کی صورت میں
فیصلہ سازی میں تاخیر ہوتی ہے



اس کا دائرہ عمل متعین کرتے ہیں۔ بہر حال جیسے جیسے ہم مینجمنٹ کے نظام مراتب (hierarchy) میں بلند تر ہوتے جاتے ہیں، دائرہ اختیار بڑھتا رہتا ہے۔

(ii) ذمے داری (Responsibility): ذمے داری ماتحت کی اس پابندی کا نام ہے جس کے تحت اسے سونپے گئے کام کو باقاعدگی سے انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ عہدے دار و ماتحت کے مابین تعلق سے وجود میں آتی ہے کیوں کہ ماتحت اپنی ذمے داری کو جو اسے اپنے اعلیٰ عہدے دار سے ملتی ہے، انجام دینے کا پابند ہوتا ہے۔ لہذا ذمے داری کا بہاؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے یعنی ایک ماتحت ہمیشہ اپنے اعلیٰ عہدے دار کو جواب دہ ہوتا ہے۔

حق اختیار اور ذمہ داری دونوں سے متعلق ایک اہم

کو ماتحتوں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

اختیارات کا رابطہ تنظیم میں نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے یعنی مینجر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ماتحت ان کی فرماں برداری کریں اور ملازمین ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اختیار اعلیٰ عہدے داروں اور ماتحتوں کے تعلق کو طے کرتا ہے جس میں اعلیٰ عہدے دار ماتحتوں کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ان سے اپنے احکام کی تکمیل کی توقع رکھتا ہے اور ماتحت اپنے اعلیٰ عہدے دار کی رہنمائی میں ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدے دار کس حد تک اپنے ماتحت کو اپنے حکم کی تعمیل پر مجبور کر سکتا ہے، اس کا انحصار اعلیٰ عہدے دار کی شخصیت پر ہے۔

یہ بات لازمی طور پر نوٹ کر لینا چاہیے کہ اتھارٹی کا حق اختیار کسی تنظیم کے اصول و ضوابط کا پابند ہوتا ہے اور وہی



کار کردگی کے لیے
جواب دہی کا تعین



جواب دہی کا مطلب ہے آخری نتائج کے لیے جواب دہ ہونا۔ تفویض اختیار اور ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد پھر کوئی شخص جواب دہی سے انکار نہیں کر سکتا۔ جواب دہی کو تفویض نہیں کیا جاسکتا یعنی یہ کسی کو سونپی نہیں جاسکتی اور یہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے یعنی ایک ماتحت اپنے کاموں کی تسلی بخش انجام دہی کے لیے اپنے اعلیٰ عہدے دار کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہ مینجر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماتحت اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طور پر انجام دیں۔ تکمیل کیے گئے کام کی حد تک لگاتار باز عمل آوری (Feedback) کے ذریعے اسی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ماتحتوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کاموں نیز اپنی فروگزاشتوں کے نتائج کی بھی وضاحت کریں۔

قابل غور بات جو پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملازم کو کسی کام کی ذمہ داری دی جائے تو اسے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ضروری اختیار بھی ضرور دیا جانا چاہیے۔ لہذا ایک مفوضہ اختیار، مفوضہ ذمہ داری کے ساتھ لازماً ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اگر عطا کردہ اختیار ذمہ داری سے زیادہ ہو تو اس سے اختیار کے غلط استعمال کو فروغ ملے گا۔ اور اگر مفوضہ ذمہ داری اختیار سے زیادہ ہو تو اس سے وہ شخص بے کار اور غیر موثر ہو کر رہ جائے گا۔

(iii) جواب دہی (Accountability): تفویض اختیار (Delegation) بلاشبہ ایک ملازم کو اپنے اعلیٰ عہدے دار کے لیے کام کرنے کا مجاز بناتی ہے لیکن پھر بھی نتائج کے لیے اعلیٰ عہدے دار جواب دہ ہوگا۔

موثر مینجمنٹ: ملازمین کو اختیارات دے کر، مینجر حضرات زیادہ موثر طور پر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیوں کہ اہم معاملات میں اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان کو زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ چونکہ ان کو روزمرہ کے کاموں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اس لیے انہیں نئے میدانوں میں کچھ نیا اور اچھا کرنے کے مواقع حاصل ہو جاتے ہیں۔

ملازمین کا فروغ: تفویض اختیارات کے نتیجے میں ملازمین کو اپنی ہنرمندیوں کے استعمال کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ان کی مخفی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ اس سے ان کی مہارتوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے اور تاب ناک مستقبل کے لیے بھی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر اچھے قائد کی خصوصیات اور فیصلے

(i) بالآخر، یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب اختیار (Authority) تفویض کیا جاتا ہے تو ذمہ داری سنبھالی جاتی ہے اور جواب دہی عائد کی جاتی ہے۔ ذمہ داری، اختیار سے برآمد ہوتی ہے اور جواب دہی ذمہ داری سے برآمد ہوتی ہے۔ جدول میں تفویض اختیار کے عناصر کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔

تفویض اختیارات کی اہمیت

(Importance of Delegation)

(ii)

تفویض اختیارات سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ماتحت مینجر کی ایما پر کام انجام دیتے ہیں جس سے اس کے کام کا بار کم ہو جاتا ہے اور اہم معاملات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ موثر تفویض اختیار کے درج ذیل فوائد ہیں:

تفویض اختیار کے عناصر کا ایک مختصر خاکہ (Overview of the elements of delegation)

بنیاد	اختیار (Authority)	ذمہ داری (Responsibility)	جواب دہی (Accountability)
مفہوم	کمانڈ کا حق۔	مفوضہ کام کو انجام دینے کی پابندی۔	تفویض کردہ کام کے نتیجے کے لیے جواب دہی۔
تفویض	تفویض کیا جاسکتا ہے۔	پورے طور پر تفویض نہیں کی جاسکتی۔	کسی بھی طور پر تفویض نہیں کی جاسکتی۔
اصل ماخذ	رسمی عہدے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔	تفویض کردہ اختیار سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔	ذمہ داری سے طے ہوتی ہے۔
بہاؤ	اعلیٰ عہدے دار سے ماتحت کی طرف نیچے کی سمت بہاؤ ہوتا ہے۔	ماتحت سے اعلیٰ عہدے دار تک اوپر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔	ماتحت سے اعلیٰ عہدے دار تک اوپر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

عظیم پریم جی کے ساتھ انٹرویو

عظیم پریم جی، بنگلور میں قائم و پرو کے 80 فیصد سے زیادہ کے مالک ہیں۔ وہ ہندوستان کے تیسرے سب سے بڑے سافٹ ویئر ایکسپورٹرز ہیں جس کا سالانہ محصول 2005 میں 1.8 بلین امریکی ڈالر رہا۔ فوربس میگزین کے مطابق ان کی خالص دولت 13 بلین امریکی ڈالر سے زائد ہے اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں چھٹیوں نمبر پر ہیں۔ پریم جی روی ایرن (Ravi Aron) سے جو انٹرن میں آپریشن اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں، و پرو کی ازسرنو تنظیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

ایرن: وویک پال (و پرو کا سابق CEO) نے گزشتہ سال کمپنی چھوڑ دی۔ آپ نے اپنی تنظیمی ساخت میں بنیادی تبدیلیاں کیں۔ ان تبدیلیوں نے آپ کی مارکٹوں پر اور و پرو کے مستقبل کے تعلق سے آپ کے خیالات پر، کیا اثر ڈالا؟

پریم جی:۔ سب سے زیادہ اہم چیز جسے آپ سراہیں گے یہ ہے کہ ازسرنو تنظیم سے ہم نے و پرو کی قیادت کو صارفین کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اس عمل میں ہم نے تنظیم کے اندر نئی طبقہ بندی کی کوشش کی ہے۔ اور اپنے کاروباری قائدین کو زیادہ با اختیار بنایا۔ اسی لیے ہم نے مینجمنٹ کی ایک پوری پرت کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارا مینجمنٹ عملہ اپنے کاموں میں کافی ہوشیار ہے اور اپنے کاموں کو پوری طرح انجام دیتا ہے، اس عزم و یقین کے ساتھ کہ وہ نئی ساخت کے ذریعے بہتر نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

ایرن: اپنی کمپنی کے نئے ڈھانچے میں، کیا آپ نے P4 کی ذمہ داری کو عمودی سطح پر رکھ کر تنظیم کی ازسرنو حد بندی کی ہے؟ (ایڈیٹر کا نوٹ: و پرو کی عمودی ساخت نے کمپنی کو ٹیلی کام سروس پر دو انڈرز پر وڈ کٹ انجینئرنگ سولوشن، فائینانس سولوشنز اور انٹرن پرائز سولوشنز کی اکائیوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ اکائیاں مینٹنگ، انٹورنس اور سکیورٹیز وغیرہ جیسی صنعتوں کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں)

پریم جی: ہر عمودی ایک مکمل کاروبار کی طرح ہے۔ یہ امریکی معیاروں کے مطابق بھی ایک درمیانی سائز کی کمپنی کی طرح ہے۔ کیوں کہ ہر عمودی سالانہ 300 بلین امریکی ڈالر کا ریونیو پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک یکساں ساخت کے ماتحت کام کرتی ہے، مالیات، HR، کوالٹی اور مارکیٹنگ وغیرہ وسائل کے علاوہ کام کرنے والے لوگ بھی ان کے پاس ہیں۔ لہذا نتیجے کے طور پر عمودی ایک علاحدہ کمپنی کی طرح ہے۔

ایرن: کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان مکمل کمپنیوں کو مزید اختیار اور ذمے داری تفویض کرنا چاہتے ہیں؟
پریم جی: بالکل

ایرن: اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے؟

پریم جی: یہ سب قیادت پر منحصر ہے۔ قیادت کام میں تیزی بھی لاتی ہے اور قیادت سے ہی فیصلے بروقت لیے جاسکتے ہیں۔ یہی بروقت لوگوں کو با اختیار بناتی ہے اور انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ مزید یہ کہ جو لوگ قیادت کو باخبر رکھتے ہیں، قیادت ان کو اور با اختیار بناتی ہے کیوں کہ اب ان کے کام زیادہ ذمے داری کے ہیں۔

http://www.ibef.org/artdisplay.aspx?cat_id=105 & art=id=11158

سے ان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں اور وہ خود کو بلند و برتر عہدوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔
ملازمین کے لیے ترغیب: تفویض اختیارات ملازمین کی ہنرمندیوں کو بروئے کار لانے میں مددگار ہوتی ہے۔

(iii)

لینے کی صلاحیت بھی فروغ پاتی ہے۔ لہذا تفویض مستقبل کے بہتر مینجری تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔
تفویض کار ملازمین کو اپنی ہنرمندیوں کے استعمال کا موقع فراہم کر کے انہیں تقویت پہنچاتی ہے۔ اس

(vi) بہتر تال میل (Better Coordination): تفویض کے عناصر (یعنی اختیار، ذمہ داری اور جواب دہی) سے کسی تنظیم کے مختلف عہدوں کے متعلق اختیارات، فرائض اور جواب دہی کی وضاحت اور صراحت ہوتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو فرائض گڈ مڈ نہیں ہوتے اور دوسری طرف کام دو دو بار نہیں ہوتے کیوں کہ اس سے مختلف سطحوں پر ہونے والے کام کی پوری اور واضح تصویر سامنے ہوتی ہے۔ ترسیل کی واضح صورت حال کے نتیجے میں۔ مینجمنٹ کے مختلف شعبوں اور اس کے مختلف طبقوں کے درمیان بہتر تال میل قائم رہتا ہے۔

اس طرح تفویض اختیار (Delegation) موثر تنظیم کا ایک کلیدی حصہ ہے۔

لامرکزیت (Decentralisation)

بہت سی تنظیموں میں اعلیٰ مینجمنٹ تمام فیصلے لینے میں ایک سرگرم رول ادا کرتا ہے۔ جب کہ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جن میں یہ اختیار مینجمنٹ کی نچلی سطحوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ تنظیمیں جن میں فیصلہ سازی کا اختیار اعلیٰ مینجمنٹ پر ہی مرکوز ہوتا ہے، مرکوز تنظیمیں کہلاتی ہیں جب کہ وہ تنظیمیں جن میں یہ اختیار نچلی سطحوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے وہ لامرکزیت تنظیمیں کہلاتی ہیں۔

لامرکزیت (Decentralisation) سے اس طریق کار کی وضاحت ہوتی ہے جس میں فیصلہ سازی کی ذمے داریاں مرتبے وار سطحوں (hierarchical levels) کے مابین تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ صاف و سادہ

اس کے نفسیاتی فوائد بھی ہیں۔ جب کوئی اعلیٰ عہدے دار اپنے ماتحت کو کوئی کام سپرد کرتا ہے تو یہ محض کام کا بائٹا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہوتی ہے کہ مینجر اعلیٰ عہدے دار کو اپنے ماتحت پر اعتماد ہے نیز ماتحت اپنی ذمے داریوں کے تئیں سنجیدہ اور باعمل ہے۔ کام کی ذمے داری ایک ملازم کی عزت نفس اور خودداری کی بھی تعمیر کرتی ہے اور اس کے اعتماد و یقین کو بھی بہتر بناتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ مند محسوس کرتا ہے اور اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

(iv) ترقی کی سہولت (Facilitation of growth)

تفویض اختیارات سے تنظیم کو وسعت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ تفویض، ملازمین کو نئے نئے کاروباروں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تربیت یافتہ اور تجربہ کار ملازمین نئے نئے پروجیکٹوں میں اپنی بہتر کارکردگی کے ذریعے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔

(v) مینجمنٹ کے نظام مراتب کی بنیاد (Basic of Management Hierarchy)

اختیارات کی تفویض سے ماتحت اور افسر کے درمیان رشتے استوار ہوتے ہیں۔ یہی رشتے مینجمنٹ کے نظام مراتب (Hierarchy) کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ اقتدار و اختیار کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ رسوخ پر منحصر ہے کہ کون کس کو رپورٹ دے گا۔ تنظیم میں کون کیا کام انجام دے گا اور کس کو کون کون سے اختیارات حاصل ہوں گے ان سب باتوں کا تعلق تفویض اختیارات کی توسیع سے ہی ہے۔

(Innovation at HCL) ایچ سی ایل کی اختراع

ہندوستان میں دنیا کی جدید ترین انتظامیہ، ایچ سی ایل ٹیکنالوجی اپنے ملازمین کو اختیارات دے کر کاروبار کے مستقبل کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ فورچون، اپریل 14، 2006۔

ہر ملازم 5-1 پیمانے کی بنیاد پر 18 سوالات تیار کر کے اپنے سربراہ، اپنے سربراہ کے سربراہ اور اپنی مرضی سے کسی دوسری کمپنی کے کن ہی تین منجروں کا اندازہ قدر کرتا ہے۔ ایسی 360 درجہ کی جائیں عام ہیں لیکن ایچ سی ایل میں تمام نتائج کو آن لائن بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ہر ملازم انہیں دیکھ سکے۔ یہ بات عام نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایچ سی ایل کا ہر ملازم کمپنی کے کسی بھی معاملہ میں جسے وہ توجہ کا مستحق سمجھتا ہے، کی جانب توجہ دلانے کے لیے کسی بھی وقت ایک الیکٹرانک لکٹ، تخلیق کر سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایسے لکٹ صرف ملازمین کے ذریعہ ہی بند کیے جاسکتے ہیں اور نایاب [ونیت نایاب 30000 ملازمین رکھنے والی ہندوستان کی ایچ سی ایل ٹیکنالوجیوں کا صدر ہے] چونکہ رہتا ہے کہ منیجر ٹکنوں کی تخلیق کرنے یا بند کرنے کے بارے میں ملازمین کو دھمکائیں نہیں۔ منجروں کا اندازہ قدر بھی جزوی طور پر اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کے شعبوں نے کتنے ٹکنوں کی تخلیق کی ہے۔ یہ جتنی زیادہ ہوں اتنا بہتر ہے۔

مزید برآں، ہر ملازم ایک عوامی عمل میں جسے 'U اور I' کہا جاتا ہے کسی بھی موضوع پر ایک سوال یا تبصرہ پوسٹ کر سکتا ہے ایسے 400 سوالات یا تبصرے ہر ماہ آتے ہیں اور تمام سوالات اور جوابات کو انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ نایاب وضاحت کرتا ہے کہ "میں ایک ایسی کمپنی چاہتا ہوں جو کسی بھی دوسری کمپنی کے مقابلہ میں اپنے ملازمین کو برتر خدمات دے۔" اسے چنتہ یقین ہے کہ ایچ سی ایل کی مستقبل میں رہنمائی کرنے کے لیے نظر یہ اس کا اپنا نہیں ہوگا بلکہ یہ چٹلی سطح سے ہی آئے گا۔ ابتدائی اشارات سے لگتا ہے کہ اس کی حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ نایاب صرف ایک سال کے عرصہ تک صدر رہا اور اسی ہنگامہ خیز عرصہ میں زیادہ تر اختراعات کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس وقت کمپنی کی فرسودگی کی شرح گر کر آدھی رہ گئی تھی۔ ایچ سی ایل کی اختراعات محض انتظامی نہیں ہیں۔ نایاب کہتا ہے کہ کمپنی کا مقصد بزنس پراسیس منجمنٹ پر گاہکوں کے ساتھ کام کر کے اور انفراسٹرکچر کا کم از کم انتظام کر کے، گاہکوں کے ساتھ حکمت عملی کا شراکت دار بننا ہے یہ وہ کاروبار ہے جس میں وہ ہندوستان میں رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ حکمت عملی اے ایم ڈی (ریسرچ) کے ساتھ کامیاب ہو چکی ہے یہ ایک بڑا گاہک ہے جس کے ساتھ کمپنی مندرجہ بالا کاروبار کرتی ہے۔ دوسرا کلیدی گاہک سسکو (ریسرچ) یہ ایک 10 سال پرانا گاہک ہے جس کے ساتھ اب ایچ سی ایل ایک دوسری شکل کی اختراع "جو حکم کی حصہ داری" کو اپنارہی ہے۔ فروری سے، ایچ سی ایل، سسکو کی ایک پراڈکٹ کو بنانے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے اس کو اس بنیاد پر ادائیگی ملتی ہے کہ پراڈکٹ کتنا فروخت ہوتا ہے۔ نایاب کی عاجزی ایک اہل انتظامی اثاثہ نظر آتی ہے۔

ڈیوڈ کویکپیٹرک کے آرٹیکل سے ماخوذ:

<http://www.indianembassy.org/newsite/News/US%20Media/2006/115.asp>

لفظوں میں، لامرکزیت سے مراد ہے تنظیم کی تمام سطحوں پر اختیار کی تفویض۔ فیصلہ سازی کا اختیار چٹلی سطحوں میں منقسم کر دیا جاتا ہے اور نتیجتاً کاموں اور فیصلوں میں دوری کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں فیصلہ سازی کا اختیار ایک ہاتھ میں نہ رہ کر مختلف سطحوں میں پھیل جاتا ہے۔ جب چٹلی سطحوں کے ذریعے لیے گئے فیصلے زیادہ اور اہم ہوتے ہیں تو پھر تنظیم کو نہایت درجہ لامرکزیت سمجھا جاتا ہے۔

کوئی بھی تنظیم کبھی بھی مکمل طور پر نہ تو مرکوز ہو سکتی ہے نہ ہی غیر مرکوز۔ جیسے جیسے اس کے سائز اور پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو لامرکزیت پر مبنی فیصلہ سازی کا رجحان فروغ پاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ بڑی تنظیموں میں ملازمین مختلف کاروباری معاملات میں براہ راست اور قریبی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ انہیں اعلیٰ مینجمنٹ کے ان لوگوں کی بہ نسبت زیادہ علم اور فنی مہارت ہوتی ہے جو صرف بالواسطہ طور پر انفرادی معاملات سے جڑے ہوتے ہیں۔

اس لیے، ان دونوں موجود قوتوں کے درمیان توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر تنظیم لامرکزیت اور لامرکزیت دونوں پر مبنی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔

اہمیت (Importance)

لامرکزیت نظام مراتب والی مینجمنٹ (management hierarchy) محض نچلی سطحوں پر اختیارات کی منتقلی کا نام نہیں۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے مراد ہے اختیارات کی

مرکزیت اور لامرکزیت (Centralisation & Decentralisation)

مرکزیت اور لامرکزیت اضافی اصطلاحات ہیں۔ جیسا کہ مختلف تجارتی اداروں کی موجودہ حیثیت میں نظر آتا ہے۔ کوئی تنظیم مرکوز اس وقت کہلاتی ہے جب فیصلہ سازی کا اختیار مینجمنٹ کی اونچی سطحوں کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے جب کہ لامرکزیت اس وقت کہلاتی ہے جب یہ اختیار تفویض کر دیا جاتا ہے۔

مکمل مرکزیت سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ سازی کے کاموں کے تمام حقوق کو مرتبہ وار مینجمنٹ (Management Hierarchy) کی بلند ترین سطح پر مجتمع کر دیا جائے۔ اس سے مرتبہ وار مینجمنٹ کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مکمل طور پر لامرکزیت سے مراد ہوگی کہ تمام فیصلہ سازی کے کاموں کو مرتبہ وار مینجمنٹ کی نچلی سطحوں تک تفویض کیا جائے۔ اس سے مینجمنٹ کی اونچی سطحوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی منظر نامے غیر حقیقی ہیں۔

لامرکزیت

لامرکزیت سے مراد ہے نچلی سطحوں تک تمام اختیارات کو تفویض کرنے کی باضابطہ کوشش سوائے ان اختیارات کے جو مرکزی سطح پر ہی رہیں گے۔

لوئیس ایلمن (Louis Allen)

ہر وہ شے جو کسی ماتحت کے رول کی اہمیت کو بڑھاتی ہے لامرکزیت ہے۔ ہر وہ شے جو اسے

گھٹاتی ہے مرکزیت ہے۔

ہنری فایول (Henri Fayol)

افراد (Executive) کی نشان دہی میں مدد کرتی ہے جو فعال قائد ہونے کے لیے درکار صلاحیت رکھتے ہیں۔

(ii) یہ مستقبل کی مینجمنٹ صلاحیت کو فروغ دیتی ہے

(Develops managerial talent for the future: رسمی تربیت ماتحتوں کو مہارتوں سے آراستہ کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے انھیں تنظیم میں بھرنے کا موقع ملتا ہے لیکن اسی کے مساوی وہ تجربہ ہے جو انھیں آزادانہ طور پر مفوضہ کاموں کے کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لامرکزیت انھیں اپنی صلاحیتوں کے ثابت کرنے کا ایک موقع دیتی ہے اور اس کے علاوہ تنظیم کے پاس صاحب استعداد ورکرز کی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے جنہیں چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ترقی دے کر اعلیٰ عہدے دیے جاسکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نشان دہی کرنے میں بھی مدد کرتی ہے جو زیادہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح، اس سے جہاں مینجمنٹ کو تربیت یافتہ اور باصلاحیت لوگوں سے کام لینے کا موقع ملتا ہے وہیں یہ مینجمنٹ کی تعلیم کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

(iii) فوری فیصلہ سازی (Quick decision Making) : مینجمنٹ کے نظام مراتب (Management hierarchy) کو خبررسانی کی ایک زنجیر کے طور پر بھی مانا جاسکتا ہے۔ مرکزیت پر مبنی تنظیم میں چوں کہ ہر فیصلہ اعلیٰ مینجمنٹ کے

منتخب طور پر توسیع یا بالفاظ دیگر اختیار کی باضابطہ تفویض۔ کیوں کہ اختیارات کی اس توسیع یا تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ باصلاحیت اور اہل ہیں اور وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت کے حامل ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے موثر ذمہ داری نبھاسکتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ نظر فیصلہ سازی کی خود مختاری کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا مینجمنٹ کا کام ہے کہ کن امور کی فیصلہ سازی کا حق نچلی سطح کو منتقل کیا جائے اور کن امور کی فیصلہ سازی کے حقوق اونچی سطح کے لیے محفوظ رکھے جائیں۔ ٹیبل 4 تفویض اختیار اور لامرکزیت کے درمیان نمایاں فرق کو پیش کرتی ہے۔

لامرکزیت ایک بنیادی قدم ہے اور اس کی اہمیت کو درج ذیل نکات کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے۔

(i) لامرکزیت ماتحتوں کے درمیان اختراع پسندانہ اقدامات کو فروغ دیتی ہے

(Develops initiative among

Subordinates : لامرکزیت ماتحتوں کے

درمیان خود اعتمادی اور بھروسے کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ جب مینجمنٹ کی نچلی سطحوں کو اپنے طور پر

فیصلہ لینے کی آزادی دی جاتی ہے تو وہ اپنے ذاتی فیصلوں پر انحصار کرنا سیکھتی ہیں۔ لامرکزیت کی وجہ سے ہی ان کو ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں جب ان کو مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یا پھر مشکلات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ لامرکزیت پر مبنی پالیسی ایسے

مینجمنٹ کی چلی سطحوں کے ذریعہ لیے گئے فیصلوں کو کچھ زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہو تو لامرکزیت بہت کام کی چیز ہے۔

نشوونما کو سہولت فراہم کرتی ہے (Facilitates growth): لامرکزیت مینجمنٹ کی چلی سطحوں نیز ڈویژنل یا شعبہ جاتی سربراہوں کو بڑا اختیار دیتی ہے۔ اس سے انھیں اپنے شعبے کے لیے سب سے زیادہ مناسب و موزوں طریقے پر کام کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور شعبوں کے درمیان مقابلہ و مسابقت کا رجحان فروغ پاتا ہے۔ نتیجتاً ہر شعبے کے ساتھ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور دوسروں پر سبقت لے جانے کے احساس سے پیداواری سطحوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تنظیم مزید منافع و محاصل کے مواقع پیدا کرنے کی اہل ہوتی ہے جنھیں کاروباری توسیع کے مقاصد میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بہتر کنٹرول (Better control): لامرکزیت سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ہر سطح پر کارکردگی کو جانچا پرکھا جاسکے اور شعبوں کو انفرادی طور پر نتائج کے لیے جواب دہ بنایا جاسکے۔ تنظیمی مقاصد کے حصول یا بی کی حدوں اور تمام مقاصد کے حصول میں ہر شعبے کی خدمات کو طے کیا جاسکتا ہے۔ تمام سطحوں سے بازرسی (feedback) نزاعات اور اختلاف کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتی ہے اور کاروباری معاملات کو بہتر بناتی ہے۔ لامرکزیت میں ایک اہم چیلنج کارکردگی کی جواب دہی کا ہے۔ اس چیلنج کے مقابلے کے لیے

ذریعے لیا جاتا ہے اس لیے اطلاعات کا بہاؤ سست ہوتا ہے کیوں کہ اسے بہت سی سطحوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جواب میں بھی دیر لگتی ہے۔ اس سے فیصلہ سازی کی رفتار میں کمی آتی ہے اور کسی کاروباری ادارے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک فعال ماحول برقرار رکھ سکے۔ کسی لامرکزیت پر مبنی تنظیم میں، چونکہ فیصلے ان سطحوں سے لیے جاتے ہیں جو حرکت و عمل سے قریب تر ہوتی ہے، نیز یہ کہ بہت سی سطحوں سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے یہ عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ حاصل شدہ اطلاعات کی غلط بیانی کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں کیوں کہ اسے طویل چینلوں سے نہیں گزرنا پڑتا۔

اعلیٰ مینجمنٹ کی تسکین (Relief to top management): لامرکزیت ماتحتوں کی سرگرمیوں پر اعلیٰ عہدے داروں کی براہ راست نگرانی کی ضرورت کو ختم کر دیتی ہے۔ کیوں کہ انھیں کام کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی جاتی ہے بھلے ہی وہ آزادی اعلیٰ عہدے دار کے ذریعے طے شدہ حدود کے اندر ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ شخصی نگرانی عام طور پر کنٹرول کی دوسری شکلوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً سرمایہ کاری پر منافع (Return) وغیرہ۔ لامرکزیت سے اعلیٰ مینجمنٹ کو اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے جسے وہ اہم فیصلہ سازی پالیسیوں میں صرف کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت پالیسی اور کاروباری فیصلوں دونوں میں صرف کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر

خوبیوں کے باوجود لامرکزیت کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال میں لانا چاہیے کیوں کہ اس سے تنظیمی عدم اتحاد کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر شعبے اپنے وضع کردہ اصولوں پر کام کریں جو تنظیم کے مفاد کے برخلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ لامرکزیت کو ہمیشہ اہم پالیسی فیصلوں کے میدانوں میں مرکزیت کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے۔

بیلنس اسکور کارڈ (balance score card) اور مینجمنٹ کے اطلاعاتی نظام (Management Information System) جیسے بہتر کنٹرول کے نظام وضع کیے جا رہے ہیں۔ لامرکزیت سے مینجمنٹ مجبور ہوتا ہے کہ کارکردگی کی جانچ کے لیے جدت پسندانہ نظام اپنائے۔ مختصر طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی تمام

لامرکزیت: ایک قوت (Decentralisation : A strength)

میک نیل (Mc Neil) کا نام 1879ء سے ادویاتی مصنوعات کی مینوفیکچرنگ اور فروخت سے جڑا ہوا ہے جب انھوں نے پنسلوانیا (Pennsylvania) میں اپنا پہلا ادویاتی مرکز کھولا۔ ایک ابھرتی ہوئی دواساز کمپنی کی حیثیت سے میک نیل لیپوریٹریز 1933 میں امریکہ کی ایک کمپنی بن گئی اور 1959 میں جونسن اینڈ جونسن کے گھرانے میں شامل ہو گئی۔ Mc Neil Consumer Healthcare نے کناڈا میں ایک موجودہ مینجمنٹ جونسن اینڈ جونسن پروگرام کی شروعات کر کے 1980 Guelph میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ گل ف (Guelph), Ontario میں Mc Neil Consumer Healthcare (غیر نسخہ بند ادویاتی مصنوعات)، کناڈا کی جونسن اینڈ جونسن کمپنی کے خاندان کا ایک ممبر ہے۔

جونسن اینڈ جونسن کے درمیان اور دوسری کمپنیوں کے درمیان فرق مینجمنٹ کی لامرکزیت کے نظریے کا ہے، ایک بڑی ایک کثیر ملیں ڈالر والی کمپنی کے بجائے جونسن اینڈ جونسن 190 چھوٹی کمپنیوں کی شکل میں کام کر رہی ہے اور ہر کمپنی کسی خاص دوا یا مصنوعات کو کسی مخصوص علاقے میں تیار کر رہی ہے۔ ہم لامرکزیت کے ذریعے بڑے ہونے کے فوائد کو چھوٹی کمپنیوں کی مستعدی اور دل چسپی سے جوڑ دیتے ہیں۔ لامرکزیت سے کمپنی اپنے ملازمین اور صارفین کے ساتھ جڑی رہتی ہے، ان سے قریبی تعلق بنائے رکھتی ہے اور صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے۔ جونسن اینڈ جونسن مرک کنز یومر فارما کیونیکل کمپنی بھی گل ف (Guelph) میں ہماری وڈلان روڈ پر واقع ہمارے مرکز سے مصروف خدمت ہے۔

<http://www.mcneilcanada.com/eng/eco07pg.1.5.shtm>

اس کے بارے میں سوچیے

اگر آپ ایک نیچر ہوتے تو کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ لامرکزیت کا مطلب فیصلہ سازی کے اختیار کو تفویض کرنا ہے، لامرکزیت اختیار کرتے؟

تفویض اختیار اور لامرکزیت: ایک موازنہ

Delegation & Decentralisation : A Comparative View

بنیاد	تفویض اختیار (Delegation)	لامرکزیت (Decentralisation)
نوعیت	تفویض اختیار ایک لازمی عمل ہے کیوں کہ کوئی فرد بھی تمام کاموں کو بذات خود انجام نہیں دے سکتا۔	لامرکزیت ایک اختیاری پالیسی فیصلہ ہے۔ یہ اعلیٰ مینجمنٹ کی مرضی پر لیا جاتا ہے۔
عمل کی آزادی	اعلیٰ عہدیداروں کے ذریعے زیادہ کنٹرول ہے اسی لیے اس میں ذاتی فیصلہ سازی کی آزادی کم ہوتی ہے۔	مینجمنٹ کا عملے پر کنٹرول کم ہوتا ہے اس لیے کام کرنے کی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔
مرتبہ	یہ ایک عمل ہے جو کاموں کو بانٹنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔	یہ مینجمنٹ کی فیصلہ پالیسی کی نتیجہ ہوتی ہے۔
دائرہ کار	اس کا دائرہ کار تنگ اور محدود ہوتا ہے کیوں کہ یہ اعلیٰ عہدے دار اور اس کے نزدیکی ماتحتوں تک محدود ہوتا ہے۔	اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے کیوں کہ اس سے مراد مینجمنٹ کی نچلی سطحوں تک تفویض اختیار کی توسیع ہے۔
مقصد	نیچر کے بوجھ کو کم کرنا۔	تنظیم میں ماتحتوں کو مزید اختیارات دے کر ان کے رول کو بڑھانا۔

کلیدی اصطلاحات

تنظیم کاری (Organising) | تنظیمی ساخت (Organisational Structure)

شعبہ سازی (Departmentalisation) | تفویض اختیار (Delegation)

اختیار (Authority) | ذمے داری (Responsibility) | جواب دہی (Accountability)

عملی ساخت (Functional Structure) | تقسیمی ساخت (Divisional Structure)

رسمی تنظیم (Formal organisation) | غیر رسمی تنظیم (Informal organisation)

مینجمنٹ کی وسعت (Span of Management) | مرکزیت (Centralisation)

لامرکزیت (Decentralisation)

خلاصہ

تنظیم کاری

تنظیم کاری، سرگرمیوں کا مفہوم واضح کرنے اور ان کی زمرہ بندی کا عمل ہے۔ نیز ان کے مابین اختیارات کے رشتے کو قائم کرنا ہے۔

عمل (Process): تنظیم کاری کا عمل درج ذیل اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے۔

- کام کی نشان دہی اور تقسیم
- شعبہ سازی (Departmentalisation)
- فرائض کی تفویض (Assignment of duties)
- اطلاعات رسانی کے رشتوں کا قیام (Establishing reporting relationship)

اہمیت (Importance): تنظیم کاری کو اہم مانا جاتا ہے کیوں کہ یہ کام کی تقسیم اطلاع رسانی کے روابط، وسائل کے استعمال، نشوونما، عملہ کاری (Staffing) اور اخلاقیات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

تنظیمی ساخت

وہ فریم ورک ہے جس نشوونما مینجمنٹ سے متعلق نیز تمام عملی کام انجام پاتے ہیں۔ یہ ساخت عملی یا تقسیمی ہو سکتی ہے۔

مینجمنٹ کی وسعت

کسی اعلیٰ نگران کے تحت ماتحتوں کی تعداد ہوتی ہے۔

عملی ساخت

عملی ساخت میں وہ سرگرمیاں شامل ہیں جو کام کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تخصیص، بہتر کنٹرول، مینجمنٹ کی بہترین کارکردگی اور ملازمین کی تربیت کے لیے سہولیات اس قسم کی ساخت کے فائدے ہیں۔ عملی اختیارات، مفادات کا ٹکراؤ، لچک کا ہونا اور مینجمنٹ کی ترقی میں پابندیاں اس کے نقائص ہیں۔

تقسیمی ساخت

میں وہ سرگرمیاں شامل ہیں جن کی بنیاد مصنوعات پر ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں: بچہتی، مصنوعاتی مہارت۔ جواب دہی کا زیادہ احساس، کچھلا پن، بہتر تال میل اور جدت پسندانہ اقدامات۔ اس کے نقائص ہیں: شعبہ جاتی تضادم، مہنگا عمل (Process)، تنظیمی مفادات کی طرف سے غفلت، جنرل مینجروں کی ضرورت میں اضافہ۔

رسمی تنظیم

رسمی تنظیم مینجمنٹ کے ذریعے تنظیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وضع کی جاتی ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں: ذمہ داری کا تعین۔ رول کی وضاحت، کمانڈ کی وحدت اور مقاصد کی موثر تکمیل اس کے نقائص ہیں: کارروائی میں تاخیر، تخلیقی جوہر کی شناخت اور اس کے اعتراف میں کمی اور محدود دائرہ کار۔

غیر رسمی تنظیم

غیر رسمی تنظیم کام پر لگے لوگوں کے درمیان تفاعل سے قائم ہوتی ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں: تیزی اور سماجی ضروریات کی تکمیل۔ یہ رسمی ساخت کی ناہمواریوں کو پُر کرتی ہے۔ اس کے نقائص ہیں: فساداتی قوت، تبدیلی کی مزاحمت اور گروپ کے مفادات کی ترجیح۔

تفویض اختیار

اختیار اعلیٰ عہدے دار سے ماتحت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس کے تین عناصر ہیں: اختیار، ذمہ داری اور جواب دہی۔ تفویض اختیار کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے موثر مینجمنٹ میں مدد ملتی ہے، ملازمین کی ترقی ہوتی ہے، ان کے لیے ترغیب کا سامان بہم پہنچتا ہے اور تال میل میں مدد ملتی ہے۔

لامرکزیت

پوری تنظیم میں اختیارات کی تفویض، لامرکزیت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ منجرانہ صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے۔ جلد فیصلہ سازی میں مددگار ہے، اعلیٰ مینجمنٹ کے بوجھ کو کم کرتی ہے، جدت پسندانہ اقدامات کو فروغ دیتی ہے اور بہتر کنٹرول کو فروغ دیتی ہے۔

مشق**متبادل جواب والے سوالات (Multiple Choice)**

1- درج ذیل میں سے کون سا تفویض اختیار (delegation) کا عنصر نہیں ہے؟

- (a) جواب دہی
- (b) اختیار
- (c) ذمہ داری
- (d) غیر رسمی تنظیم

2- سماجی تعلقات کا فریم ورک جو کام کے دوران تفاعل (Interaction) کی وجہ سے خود بخود

قائم ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے:

- (a) رسمی تنظیم
- (b) غیر رسمی تنظیم

- (c) لامرکزیت
(d) تفویض اختیار
- 3- درج ذیل میں سے کون سی میزانی زنجیر (Scalar Chain) کی پیروی نہیں کرتی ہے؟
(a) عملی ساخت
(b) تقسیمی ساخت
(c) رسمی تنظیم
(d) غیر رسمی تنظیم
- 4- ایک لمبی ساخت درج ذیل میں سے کیا چیز رکھتی ہے:
(a) مینجمنٹ کا تنگ پھیلاؤ
(b) مینجمنٹ کا وسیع پھیلاؤ
(c) مینجمنٹ کا پھیلاؤ نہیں
(d) مینجمنٹ کی کم سطحیں
- 5- مرکزیت سے مراد ہے۔
(a) فیصلہ سازی کے حق اختیار کو محفوظ رکھنا
(b) فیصلہ سازی کے حق اختیار کا بکھراؤ
(c) منفعتی مرکزوں کے طور پر ڈویژن قائم کرنا
(d) نئے مراکز یا شاخیں کھولنا
- 6- تفویض اختیار (Delegation) کے موثر ہونے کے لیے درج ذیل میں سے کون سی چیز ”ذمہ داری“ کے ساتھ جوڑنی چاہیے:
(a) اختیار
(b) انسانی وسائل
(c) ترغیبات
(d) ترقی
- 7- مینجمنٹ کی وسعت سے مراد ہے۔
(a) مینجروں کی تعداد
(b) وہ مدت کار جس کے لیے کسی مینجر کا تقرر کیا گیا ہے۔
(c) اعلیٰ عہدے دار کے زیر اثر ماتحتوں کی تعداد
(d) اعلیٰ مینجمنٹ میں ممبروں کی تعداد

8- تنظیم کی وہ شکل جو افواہیں پھیلانے کے لیے جانی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے:

- (a) مرکزیت پر مبنی تنظیم
- (b) لامرکزیت پر مبنی تنظیم
- (c) غیر رسمی تنظیم
- (d) رسمی تنظیم

9- پروڈکٹ لائنوں کی بنیاد پر سرگرمیوں کی گروپنگ کرنا ایک حصہ ہے:

- (a) تفویضی تنظیم کا
- (b) تقسیمی تنظیم کا
- (c) عملی تنظیم کا
- (d) خود مختار تنظیم کا

10- کاموں کی بنیاد پر سرگرمیوں کی گروپنگ کرنا ایک حصہ ہے۔

- (a) لامرکزیت پر مبنی تنظیم کا
- (b) تقسیمی تنظیم کا
- (c) عملی تنظیم کا
- (d) مرکوز تنظیم کا

مختصر جوابی سوالات

- 1- تنظیم کاری (Organising) کی تعریف بیان کیجیے۔
- 2- تنظیم کاری کے عمل میں کیا اقدامات ہوتے ہیں؟
- 3- تفویض اختیار (Delegation) کے عناصر بیان کیجیے۔
- 4- مینجمنٹ کی وسعت سے کیا مراد ہے؟
- 5- کن حالات میں عملی ساخت ایک مناسب اور موزوں پسند انتخاب ثابت ہوگی؟
- 6- ایک خاکہ بنائیے اور کی وسعت ساخت کی تصویر کشی کیجیے۔
- 7- کیا ایک بڑے ساز کی تنظیم مکمل طور پر مرکوز یا لامرکوز ہو سکتی ہے؟
- 8- لامرکزیت تفویض اختیار (Delegation) کی سطحوں تک توسیع کا نام ہے۔ بحث کیجیے۔

طویل جوابی سوالات

- 1- میوٹر تنظیم کاری کے لیے تفویض اختیار (Delegation) کو لازمی کیوں خیال کیا گیا ہے؟
- 2- تقسیمی ساخت کیا ہے؟ اس کی خوبیاں اور نقائص بیان کیجیے۔
- 3- لامرکزیت ایک انتخابی پالیسی ہے۔ وضاحت کیجیے کہ کسی تنظیم میں لامرکزیت کا انتخاب کیوں کیا جانا چاہیے؟
- 4- غیر رسمی تنظیم رسمی تنظیم کی کس طور پر معاونت کرتی ہے؟
- 5- مرکزیت اور لامرکزیت پر مبنی تنظیموں کا فرق واضح کیجیے۔
- 6- عملی ساخت تقسیمی ساخت سے کس طور پر مختلف ہوتی ہے؟

اطلاقی قسم کے سوالات

- 1- نیبا ایک فیکٹری چلاتی ہے جس میں وہ جو توں کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے۔ کاروبار بہتر چل رہا ہے۔ وہ چڑے کے بیگ اور مغربی طرز کے کپڑے بنا کر کمپنی کی توسیع کرنا چاہتی ہے اور اس طرح کارپورٹ وی میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے۔ کس قسم کی ساخت آپ اس کی توسیع شدہ تنظیم کے لیے تجویز کریں گے اور کیوں؟
- 2- پروڈکشن مینجر نے فورمین سے 200 یونٹ روزانہ کی پیداوار کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ اسے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے مطلوبہ اوزار اور خام مال کا اختیار نہیں دیتا۔ اگر فورمین مطلوبہ نشانہ حاصل نہ کر سکے تو کیا پروڈکشن مینجر فورمین کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ وجوہات بتائیے۔
- 3- ایک مینجر 500 اکائیوں سے 700 اکائیوں تک ماہانہ پیداواری ہدف بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن خام مال نکالنے کا اختیار نہیں دیتا۔ پروڈکشن مینجر نئے نشانے کو حاصل نہ کر سکا۔ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے اور کون سا اصول اس میں توڑا گیا؟
- 4- ایک کمپنی کا رجسٹرڈ آفس دہلی میں مینوفیکچرنگ گڑگاؤں میں اور مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ فرید آباد میں ہے۔ کمپنی کنزیومر پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے۔ اسے تنظیمی ساخت کی کون سی قسم اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے؟

واقعاتی مسائل

- 1- ایک کمپنی جو کھلونوں کے ایک معروف برانڈ کی مینوفیکچرنگ کرتی ہے مارکیٹ میں اس کی اچھی ساکھ اور شہرت ہے۔ پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کے لیے اس نے مارکیٹنگ، مالی اور انسانی وسائل اور تحقیق و ترقی کے علاوہ علاحدہ شعبوں کے ساتھ عملی ساخت کو اختیار کر رکھا ہے۔

اب وہ اپنے تجارتی مارکہ (brand name) کو استعمال کر کے نئے کاروباری مواقع حاصل کرنے کے لیے وہ الیکٹرونک کھلونے بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کے لیے ایک نئی مارکیٹ ابھر رہی ہے۔

سوالات:

تنظیمی ساخت سے متعلق ٹھوس وجوہات دیتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کیجیے کہ کمپنی کو جو قدم اٹھانے چاہیں ان سے اسے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔

2- ایک برطانوی کمپنی جس نے 1945ء میں سلائی مشین کی مینوفیکچرنگ کا سلسلہ شروع کیا مکمل طور پر رسمی تنظیم کا نظام اختیار کر رکھا ہے۔ اب فیصلہ سازی میں اسے بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً وہ کاروبار کے بدلنے ہوئے ماحول میں خود کو ہم آہنگ نہیں کر پارہی ہے ملازمین کو بھی کچھ ترغیبات نہیں دی گئی ہیں۔ وہ پرانے طریقوں سے ہی اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ملازمین کا Turnover زیادہ ہے۔ کمپنی کا بازار شیئر بھی بدلتے حالات اور کاروباری ماحول کے سبب گھٹ رہا ہے۔

سوالات:

کمپنی کو مشورہ دیجیے کہ وہ اپنی تنظیمی ساخت میں کیا تبدیلی لائے تاکہ ان مسائل کا ازالہ ہو سکے جن کا اسے سامنا ہے۔ آپ کے مشورہ دیے جانے سے کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی ان کی وجوہات بتائیے۔ مارکیٹ کے گرتے ہوئے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ کمپنی کن نئی مصنوعات کی طرف متوجہ ہو اور کمپنی میں تنوع پیدا کرے۔

3- ایکس لمیٹڈ نامی کمپنی کا سیمیٹکس بناتی ہے۔ اب وہ بہت وسیع ہو گئی۔ کا سیمیٹکس کو کاروباری دنیا میں بڑا نمایاں مقام حاصل ہے۔ 1991 تک کمپنی کا کاروبار بہت اچھا تھا لیکن آزاد ماحول کی بنا پر اب ملٹی نیشنل کمپنیاں اس میدان میں کود پڑیں۔ اس کے نتیجے میں ایکس لمیٹڈ کا حصہ بازار گھٹ گیا۔ کمپنی نے ڈائریکٹس اور ڈویژنل سرپرستوں کے علاوہ یہاں تک کہ معمولی فیصلے لینے کے لیے بھی نہایت مرکزیت پر مبنی ماڈل اختیار کر رکھا ہے۔ 1991ء سے قبل یہ کاروباری ماڈل کمپنی کی بہت اچھی طرح خدمت کر چکا تھا۔ کیونکہ صارفین کے پاس کوئی اور انتخاب تھا ہی نہیں۔ لیکن اب کمپنی اصلاحات کے لیے مجبور ہے۔

سوالات:

کمپنی کو اپنے حصہ بازار کو قائم رکھنے کے لیے اپنی تنظیمی ساخت میں کیا تبدیلیاں لانی چاہئیں؟ آپ کی تجویز کردہ تبدیلیوں سے فرم کو کس طرح مدد ملے گی؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ دائرہ جس میں کمپنی ہے FMCG ہے۔